

ڈاکٹر ذاکر نامک
کے
خیالات اور نظریات

از

مفتی محمد عبید اللہ الاسعدی
استاذ الحدیث جامعہ عربیہ ہتھورا بانده

شائع کردہ

Khatme Nubuwwat Academy

387 KATHERINE ROAD, FOREST GATE
LONDON E7 8LT, UNITED KINGDOM

Phone 020 8471 7434

Mobile: 0793 436 4668, 0795 803 3404

Email: khatmenubuwwat@hotmail.com

Web-site: www.khatmenubuwwat.org

دعوتِ اسلام اور داعی کی ذمہ داریاں

از حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم (مفتی اعظم مہاراشٹر)

دین کی دعوت امت کا اجتماعی فریضہ ہے۔ کتاب و سنت کی نصوص اس پر شاہد ہیں کہ جن حضرات تک تو حید و رسالت اور دین کا پیغام نہیں پہنچ سکا، امتِ محمدیہ اس کی مکلف ہے کہ ان تک یہ دعوت پہنچائے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی واضح ہدایت ہے کہ جو لوگ موجود ہیں وہ ان حضرات تک یہ پیغام پہنچائیں جو موجود نہیں؛ دعوت کا ایک شعبہ غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، ساتھی ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے ایک طبقے کا موجود رہنا بھی قرآن نے ضروری قرار دیا ہے۔ اسلام اور اسلامی اصولوں کے خلاف اس عہد کے معترضین جو اعتراضات کرتے تھے کتاب و سنت میں ان کے جوابات بھی موجود ہیں، اس طرح دعوت کے ضمن میں یہ تین شعبے سامنے آتے ہیں۔

(۱) خالص تو حید و رسالت اور دین حق کی طرف بلانا۔

(۲) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔

(۳) اسلام اور اسلامی تعلیمات کا دفاع اور پیدا کیے جانے والے لشکوک و شبہات کا ازالہ۔

انبیائے کرام علیہم السلام کا اولین منصب ہی داعی الی اللہ کا منصب ہے، جتنے بھی انبیائے کرام علیہم السلام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سب نے اپنی رسالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ کی توحید عقیدہ آخرت اور احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارنے کے طرف اپنی اپنی امتوں کو بلایا اور جب تک انسانوں کے درمیان رہے یہی ان کی جدوجہد کا محور رہا۔ قرآن کریم نے حضور نبی کریم ﷺ کے اوصافِ حمیدہ میں ذاعیناً الی اللہ کو بڑے نمایاں انداز میں بیان کیا ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی حضرات انبیائے کرام علیہم السلام کی دعوت کا جزو رہا ہے اور انہوں نے اپنے امتیوں کو خیر اور بھلائی والے اعمال کو اختیار کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی

مستقل تربیت دی ہے۔ ان کے عہد میں اس دعوت پر جو شکوک و شبہات عائد کیے گئے حضرات انبیائے کرام علیہم السلام نے انتہائی سادہ انداز میں وحی ربانی کی تائید سے ان کا بھی ازالہ کیا، کبھی یہ جوابات تحقیقی ہوتے تھے اور کبھی الزامی، جیسی ضرورت ہوئی ویسا اسلوب اختیار کیا گیا؛ لیکن دعوت کے بنیادی اصولوں سے انحراف اور وحی ربانی کی ہدایات اور اللہ کی مرضی کے خلاف محض دفع الوقتی کے لیے کوئی جواب نہ ان حضرات نے دیا اور نہ ہی یہ ان کے شایانِ شان تھا۔

آں حضرت ﷺ کی تشریف آوری کے بعد انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا لیکن یہ ضرورتیں بہر حال باقی رہیں، حدیث پاک کی رو سے اب یہ فریضہ علمائے امت کے ذمے ہے۔

تاریخ اسلام کے ہر عہد میں ہمیں ایسے رجال کا نظر آتے ہیں جو تاحیات اس سلسلے میں جد و جہد کرتے رہے اور ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جو تاریخ اسلامی میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتے ہیں۔

پوری تاریخ کا بیان کرنا مقصود بھی نہیں اور کسی مختصر تحریر میں اسے بیان بھی نہیں کیا جاسکتا، اس کے لیے تو دفتر بھی ناکافی ہیں، یہاں صرف سرسری مطالعہ ہی ممکن ہے۔

تاریخ میں ہمیں دعوتِ اسلامی کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے والی بے شمار شخصیات ملتی ہیں، سب میں قدر مشترک یہ تھا کہ عقیدے کی پختگی کے ساتھ ساتھ وہ اعمال و کردار کی پختگی میں دوسروں سے کہیں آگے تھے اور اس جد و جہد کے دوران بھی کتاب و سنت کے اصولوں سے انحراف کا تصور بھی نہ رکھتے تھے۔

اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچانے میں حضراتِ صوفیائے کرام رحمہم اللہ کی خدمات ناقابلِ فراموش ہیں، انہوں نے نہ اسٹیج سجائے اور نہ امت سے کوئی صلہ طلب کیا بلکہ خاموشی سے اپنی جگہ پختہ عزم و ارادے کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو اللہ کی عظمت و کبریائی کی جانب بلا تے رہے اور ان کے

کردار کی پختگی نیز اعمال کے کتاب و سنت کے عین مطابق ہونے کا یہ اثر تھا کہ لوگ فوج در فوج ان کے پاس آتے اور کلمہ شہادت کی گواہی دیتے ہوئے اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ برصغیر میں آج جو مسلمان ہیں ان میں بہت کم ایسے ہیں جن کے آبا و اجداد عرب کی سرزمین سے آکر یہاں بس گئے ہوں اور ہم انہیں پستیٰ مسلمان کہہ سکیں، اکثر یہیں کے لوگ حضرات صوفیائے کرام کی دعوت اور ان کے کردار سے متاثر ہو کر حلقہ گوش اسلام ہوئے اور بحمد اللہ ان کی نسلیں آج تک صراط مستقیم پر گامزن اور دامن اسلام سے وابستہ ہیں۔

صوفیائے کرام، دوسرے علماء نے امت کے احتساب کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں اور جو لوگ ان سے وابستہ ہوئے ان حضرات نے کوشش یہ کی کہ وہ رذائل سے دور ہوں، اسلامی خصلتوں کو اپنائیں حلال کو اختیار کریں، حرام سے بچیں اور احکاماتِ الہیہ کی تابعداری اس طرح کریں کہ کوئی سنت ترک نہ ہونے پائے؛ غرض یہ کہ انہوں نے اپنے متعلقین کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر سچے مسلمان کا مصداق بن سکیں اور معروف کو اختیار کرنے اور منکرات سے دور رہنے کے جوگر بن جائیں۔

صوفیائے کرام سے ہماری مراد وہ صوفیاء ہیں جو خالص کتاب و سنت کی دعوت دینے والے تھے، جو غلوں میں مبتلایا اسلام کی روشن شاہراہ سے منحرف تھے ان کا یہاں کوئی ذکر نہیں، وہ امت کی اصلاح کیا کرتے خود ہی اصلاح کے محتاج تھے۔

اسلام پر اعتراضات اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کا سلسلہ ابتدائے اسلام ہی سے نظر آتا ہے لیکن یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ امت نے اس طرف بھی ہر دور میں مناسب توجہ دیتے ہوئے دفاعِ اسلام کا فریضہ بھی کما حقہ انجام دیا۔ فقہائے اسلام اور محدثین و مفسرین کے پہلو بہ پہلو حضرات متکلمین کا ایک حلقہ بھی اپنا وجود رکھتا ہے، جن کا کام ہی یہ رہا کہ اسلام پر جو اعتراضات غیروں کی طرف سے کیے گئے ہوں یا جہاں شکوک و شبہات کے ذریعہ لوگوں کو حق سے منحرف کرنے

کی کوششیں ہو رہی ہوں، ان سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد کتاب وسنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا واضح اور مسکت جواب دیا جائے، اور وہ حضرات اس میں کامیاب بھی رہے۔ فلاسفہ کے اشکالات ہوں یا ملحدین کے اعتراضات کتاب وسنت پر اشکالات کیے گئے ہوں یا اسلامی عقائد و احکام کو ہدف بنایا گیا ہو، ان حضرات نے کسی سوال کو لا جواب نہیں رہنے دیا اور جو کچھ اس کے متعلق وہ لکھ گئے وہ بعد والوں کی رہنمائی بھی کرتا رہے گا۔ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی مسلمات اور حقائق و واقعات کا نہ انکار کیا اور نہ ان کی بے جاتا و پلین کیں، بلکہ اعتراض کرنے والوں میں جو کج فکری تھی اسے واضح کرتے ہوئے ان کی غلطیوں کی نشاندہی اور غلط فہمیوں کا جیسا چاہیے تھا ویسا ہی مناسب ازالہ کیا۔

ہمیں دورانِ مطالعہ ایسے حضرات بھی ملتے ہیں جنہوں نے اعتراضات سے گھبرا کر اسلامی مسلمات ہی سے انکار کر دیا یا ان کی بے جاتا و پلین کیں، مگر ظاہر ہے یہ نہ تو اسلام کی خدمت ہے اور نہ ایسے دفاع کی اسلام کو کوئی ضرورت ہے۔ اسلامی تعلیمات کا دفاع اسی وقت معتبر مانا جائے گا جب ان میں نہ تو مسلمات کا انکار ہو اور نہ تاریخ اور حقائق سے روگردانی کی گئی ہو۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امت نے ہر دور میں داعیانِ اسلام بالخصوص اسلامی دفاع کے میدان میں سرگرم رجال کار کی تحسین و پذیرائی کرتے ہوئے ہمیشہ انہیں پسندیدگی کی نظر سے دیکھا اور ان کی تائید و نصرت کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر جب بھی ضرورت ہوئی ان کا ہر ممکن تعاون کیا۔

ہندوستان میں انگریزوں کی آمد اپنے ساتھ کئی فتنے لائی: ان میں سے بڑا فتنہ اسلامی عقائد و تعلیمات پر اعتراضات اور مسلمانوں کو حق سے منحرف کرنے کا تھا، اس دوران جن بہت سے بزرگوں نے کامیاب دفاع کرتے ہوئے معترضین کو پسپا کیا، ان میں حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ، ڈاکٹر وزیر علیؒ مرحوم، اور بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی وغیرہ نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔

اس دوران کچھ ایسے نام بھی ملتے ہیں جنہوں نے مسلمات اور حقائق کا انکار کرنے یا ان کی

بے جاتا دلیل کا طریقہ اپنایا، مگر ظاہر ہے یہ نہ تو اسلام کی خدمت تھی اور نہ ہم اسے مستحسن کہہ سکتے ہیں۔ جو حضرات اس میدان میں سرگرم عمل ہوئے ان میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے بعد میں اسلامی تعلیمات ہی کو بدلنا شروع کر دیا لیکن جب تک ان کا مقصد سامنے نہیں آیا وہ امت میں مقبول بھی رہے اور ان کی تائید و تحسین بھی ہوئی؛ چنانچہ مرزا غلام احمد قادیانی کا تعلق بھی اسی عہد سے ہے، شروع میں یہ مبلغ اسلام بن کر سامنے آیا اور اعتراض کرنے والوں تک پہنچ کر جواب دینے والے خادم اسلام کی حیثیت سے شہرت پائی؛ لیکن بعد میں اس نے جس طرح مہدی، نزول عیسیٰ اور حتم نبوت کی غلط تشریح کرتے ہوئے خود مہدیت، مسیحیت اور نبوت کے دعوے کیے، انہوں نے اس کو مقبولین کی صف سے نکال کر مردودوں کی صف میں لاکھڑا کیا؛ کچھ لوگ اس کی اس گمراہی کا شکار بھی ہوئے لیکن امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزا غلام احمد اور اس کے تابعین کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ پورا طبقہ دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانیت نے اپنے گمناشتے بھی چھوڑ رکھے ہیں، جن سے قادیانیوں کے گہرے روابط ہیں، اگرچہ بظاہر وہ اسلام کا جھنڈا بلند کیے نظر آتے ہوں مگر یہ موقعہ اس تفصیل کا نہیں ہے۔ بات چل رہی تھی دعوت دین کی لیکن اس سلسلے میں بعض اوقات جو کوتاہیاں ہوتی ہیں یا غلط فکر رکھنے والے جس طرح دین کی..... دعوت کو آڑ بنا کر اپنے مسموم نظریات پھیلاتے ہیں اور امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی نشان دہی بھی ضروری ہے۔ درمیان میں اس کا ذکر آگیا۔ تاہم یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔

ہمارے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب ہیں، اسلامی مبلغ اور داعی کی حیثیت سے خاص شہرت رکھتے ہیں اور ٹی وی چینل وغیرہ پر بھی دیکھے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا ہے وہ بڑا مفید، مستحسن اور قابل قدر ہے۔

افریقہ کے مشہور مبلغ احمد دیدات صاحب نے عیسائیت کے خلاف بڑی مفید اور کامیاب خدمات انجام دی ہیں۔ ان کے سی ڈیز اور آڈیو کیسٹ وغیرہ دیکھ کر جو حضرات اس جانب متوجہ ہوئے

ان میں ڈاکٹر ڈاکرنا نیک بھی تھے، شروع میں ان کا دائرہ کار ردّ عیسائیت تک محدود تھا، اس کے بعد دوسرے مذاہب والوں نے جو اعتراضات کیے یا کرتے ہیں، اس پر بھی ڈاکرنا نیک صاحب بولنے لگے، یہاں تک تو معاملہ غنیمت تھا، بعد میں مختلف اسلامی موضوعات اور آیات قرآنی کی تشریح و تفسیر بھی شروع ہو گئی۔ اس سلسلے میں یہ ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ تفسیر ہو یا دوسرے اسلامی موضوعات ان کے لیے علمی حدود متعین ہیں؛ اگر کوئی عالم و فاضل بھی ان حدود سے تجاوز کرے گا تو یہ اس کا تفرد کہلائے گا، تفسیر وغیرہ کے لیے اہلیت ضروری ہے، جو اہل نہ ہو وہ جب کچھ کہے گا یا لکھے گا تو قوی امکان ہے کہ اپنی رائے کو داخل کر دے، جب کہ تفسیر بالرائے امت کے اجماعی فیصلے کے مطابق مردود ہے اور جو قصداً اس کا مرتکب ہو حدیث میں اس کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ دیگر دینی موضوعات کا معاملہ بھی یہی ہے کہ امت نے تسلسل کے ساتھ جو طے کر رکھا ہے اس سے انحراف سراسر گمراہی ہے، ہمیں ڈاکٹر صاحب سے یہ حسن ظن ہے کہ وہ تفسیر بالرائے یا امت کے اجماعی فیصلوں سے انحراف سے دور رہی رہنا چاہیں گے، دینی اصلاحات کا جو مفہوم اور مصداق امت نے سمجھا اور بطور وراثت ہم تک منتقل ہو کر آیا، امید تو یہی ہے کہ ڈاکر صاحب اس میں بھی کسی تبدیلی کو صحیح نہ سمجھتے ہوں گے۔

مبلغ اسلام کی حیثیت سے امت کے سامنے آ کر بعد میں مسیحیت و نبوت کے مدعی غلام احمد قادیانی کا انجام بھی ان کے سامنے ہوگا اور وہ اس روش کی تباہ کاریوں سے بھی بخوبی واقف ہوں گے، اس لیے اب تک تو یہ سوچا بھی نہیں جاسکتا کہ خدا نخواستہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی یہ راہ اپنا سکتے ہیں، تاہم یہ ضرور ہے کہ داعی اسلام کے عظیم منصب پر اکتفاء نہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک خاص مسلک کی ترویج و اشاعت کا جو بیڑا اٹھالیا ہے، وہ ان کے قد کو بلند کرنے کے بجائے ان کو پستہ قد بنا تا جا رہا ہے اور ہم جیسے بہت سے لوگ جو ابتداء میں بجا طور پر ان سے حسن ظن رکھتے تھے، اب ان کی سابقہ خوش فہمی باقی نہیں رہی۔

حدیث نبوی ہے کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یہ بھی مسلم ہے کہ دو ہی قسم کے لوگ ہو سکتے

ہیں جو اجتہاد کی اہلیت رکھتے ہوں اور جو اس سے محروم ہوں۔ اس دوسرے گروہ کے لیے اجماعی فیصلہ ہے کہ ان کے واسطے تقلید مجتہد ضروری ہے، ورنہ وہ اسلام ہی سے ہاتھ دھولیں گے۔ ذاکر صاحب نے جس طرح ائمہ مقلدین کو نشانہ بنا رکھا ہے اول تو اس مسلمہ اصول اور حدیث نبوی ﷺ کے خلاف ہے کہ امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، دوسرے انہوں نے یہ طریقہ کار اپنا کر خود کو بہت محدود کر لیا ہے، پہلے وہ اسلام کے داعی اور مبلغ تھے، اب ایک خاص اور ایسے مسلک کے مبلغ ہیں جو پوری امت کو گمراہ اور مشرک قرار دیتا ہے۔ جہاں تک ہمیں علم ہے وہ اجتہاد کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے اور شایدان کا یہ دعویٰ بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بعض علمی موضوعات پر ان کے جو اجتہادات سننے میں آئے وہ باعث تعجب ہیں۔

اعتراضات کے جوابات میں بھی وہ بعض اوقات علمی حدود کو پار کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ دنیا میں بھلے ان سے کوئی مواخذہ نہ کیا جاسکے، آخرت میں یقیناً جوابدہی کرنی پڑے گی۔

کچھ عرصہ قبل انہوں نے یزید کے متعلق بھی ”رحمۃ اللہ علیہ“ کہتے ہوئے ایک بے فائدہ بحث چھیڑ کر خود کو اور متنازعہ بنا لیا، حالانکہ انہیں خود بھی یہ علم ہوگا آخرت میں یہ سوال ہرگز نہ کیا جائے گا کہ یزید کو مرحوم و مغفور کہتے تھے یا مرد و سمجھتے تھے؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں تھا کہ احقاقِ حق ضروری ہو اور اسے مستقل موضوع بنا لیا جائے، جو شخص داعی اسلام کی حیثیت رکھتا ہو اسے خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ علمی موضوعات پر بھی جب وہ بولتے ہیں تو بعض وقت کتاب و سنت کی تصریحات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔

پیش نظر تحریر مولانا مفتی عبداللہ الاسعدی صاحب نے اس قبیل کی چند فروگزاشتوں کا ذکر کرتے ہوئے صحیح جوابات کے سلسلے میں متعلقہ نصوص کی نشاندہی بھی کی ہے اور ذاکر نانیک صاحب نے ان آیات پر اعتراضات کے جواب میں جو غلطیاں کیں ہیں، انتہائی سنجیدہ اور مثبت انداز میں ان کی نشاندہی بھی کر دی ہے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہو۔

امید ہے کہ مفتی صاحب کی یہ مختصر تحریر ڈاکر صاحب کی تحریک کو سمجھنے میں بڑی حد تک موثر ثابت ہوگی۔ ہم ڈاکٹر ڈاکرنا نیک صاحب سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ داعی کی صفات کو سمجھ کر انہیں پوری طرح اپنائیں، خود کو کسی خاص نظریے کا مبلغ نہ بناتے ہوئے اسلام کے دفاع تک محدود رہیں اور بے جا جہتادات سے بھی گریز کریں؛ مسلمات کو بھی نہ چھیڑیں اور ایسے موضوعات سے بھی بچیں جن کے متعلق آخرت میں آپ سے کوئی سوال نہ کیا جائے گا، امید ہے کہ یہ گزارش صد بصر اثابت نہ ہوگی۔

سے اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد
نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد

حرفے چند

از سعید الرحمن فاروقی (القاسمی)

(مفتی) دارالعلوم امدادیہ ممبئی - ۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن و حدیث اور اسلامی قانون کی تشریح جو علمائے سلف سے منقول و متداول ہے اس کے خلاف کسی دانشور کی بیجا اجتہادی کاوش کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسلامی ذخیرہ علم میں جس طرح سلف کی نقل حجت ہے اور اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں، اسی طرح ان کی فہم بھی حجت و سند ہے، بصورت دیگر دین کی حفاظت و صیانت میں کوتاہی بلکہ تحریف کا شدید اندیشہ ہے، اشاعت تو بعد کی بات ہے۔

ڈاکٹر ذاکر نائیک جس ذخیرہ علم سے استفادہ کر کے دانشوری کے سٹیج پر پہنچے ہیں اس کے جمع کرنے والوں کی تشریحات و فہم پر اعتماد بھی ان کا ایمانی و اخلاقی فریضہ ہے۔

اس مختصر کتابچہ میں خانوادہ علم و فضل کے تابندہ ستارے حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندویؒ کے معتمد اور جامعہ عربیہ ہتھورا کے شیخ الحدیث، مجمع الفقہ الاسلامی کے جنرل سیکریٹری، کثیر التصانیف عالم و فاضل محترم مولانا مفتی عبید اللہ صاحب الاسعدی ہدظلہ العالی نے اس بیجا روش کا معقول اور مدلل جائزہ لیا ہے۔ امید کہ ان شاء اللہ ڈاکٹر ذاکر نائیک کے لیے نصیحت اور دوسروں کے لیے باعث عبرت ہوگا۔

والله ولي التوفيق

دعوتِ اسلام کی اہمیت اور حدود و ضوابط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد

ارشاد بانی ہے:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

[سورہ انفال: ۶۰]

اس کا حاصل یہ ہے کہ دین کی حفاظت، نشر و اشاعت، دفاع و اقدام کے لیے جو ممکنہ اسباب و ذرائع ہوں ان کو اختیار کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ حسب موقع و حالات مستحسن و ضروری ہے۔ بشرطیکہ وہ اسباب ایسے ہوں کہ ان میں کتاب و سنت کی صراحت و مقاصد سے معارضہ نہ ہو اور مخالفت نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ جنگ و جہاد میں وقت کے بدلنے کے ساتھ نئے ہتھیار و آلات سے کبھی احتراز نہیں کیا گیا اور نہ علم و دین کی اشاعت و حفاظت کے لیے مناسب و ممکنہ صورتوں سے انکار کیا گیا۔

اور اسی بنیاد پر کہ اس وقت کے اہل نظر محققین نے --- سب نے یا ایک بڑی و معقول تعداد و جماعت نے --- یہ رائے اختیار کر لی ہے کہ موجودہ ذرائع ابلاغ کا استعمال دینی، عملی، دعوتی، تبلیغی، اصلاحی مقاصد و مساعی کے لیے جائز و درست ہے اگر ضروری نہ کہا جائے، ورنہ تو ضروری بھی قرار دیا جا سکتا ہے، خواہ ریڈیو ٹیپ ہو یا ٹی وی، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ۔ بالخصوص اس لیے بھی اس کی اجازت و ضرورت ہے کہ اہل باطل ان چیزوں کو بے دریغ استعمال کر کے اپنے افکار و نظریات کی خوب اشاعت کر رہے ہیں۔

اب اگر اہل حق ان موجودہ مقبول عام ذرائع سے مکمل صرف نظر کریں گے تو آج کے حالات

میں بڑے نقصان کا اندیشہ ہے جیسا کہ ثابت بھی ہو رہا ہے۔ جبکہ آج صورت یہ ہے کہ ایک بڑا طبقہ انہیں ذرائع پر ہی اکتفاء کر رہا ہے۔

ہم لوگ بھی اپنے بعض اہل نظر اکابرین کی موافقت کے ساتھ یہ رائے رکھتے ہیں، اگرچہ عموماً اب تک نہ ٹی وی پر گئے اور نہ ٹی وی لائے اور نہ دیکھنے کا اہتمام و مزاج معمول ہے۔ اتفاق سے ہی سابقہ پڑ جاتا ہے۔ اور انٹرنٹ کا معاملہ تو اور دور ہے۔ اس لیے ٹی وی اور انٹرنٹ پر اسلام سے متعلق کیا آ رہا ہے براہ راست اس سے واقفیت نہیں، ہاں سنتے رہتے ہیں، کبھی اس قبیل کی چیزیں پڑھنے میں بھی آ جاتی ہیں۔

ادھر چند سالوں سے ٹی وی دیکھنے والوں کے واسطے سے دین کے ایک داعی و ترجمان کی حیثیت سے ایک نام جو بہت سننے میں آیا اور آ رہا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب کا نام ہے بالخصوص کیوٹی وی (QTV Pakistan) (اور اب Peace TV پس ٹی وی) سے مستفید ہونے والوں سے ان کی بابت زیادہ سنا گیا، اس سلسلہ میں سوالات بھی سامنے آئے اور آتے ہیں اور کچھ گفتگو بھی ہو جاتی ہے، براہ راست کوئی سابقہ نہیں پڑا کیونکہ زبان کا معاملہ یہ ہے کہ

زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم

حجاز مقدس کے ایک سفر میں ان کے خواص رفقہاء میں سے چند کا ساتھ رہا مگر ان سے اس بابت کسی گفتگو کی نوبت نہیں آئی اگرچہ ان کا ذکر ضرور آیا۔

ہمارے شہر لکھنؤ میں بھی ان کا ایک پروگرام ہوا اس کی بھی کچھ روداد سنی بھی اور پڑھی بھی اور اسی کے بعد انکی ایک سی ڈی کو بھی سننے کی نوبت آئی جو اردو میں تھی خصوصیت سے سوال و جواب کا حصہ بنا۔ جو باتیں سامنے آتی رہیں ان میں ان کے حق میں تاثرات کے ساتھ دوسری قسم کی باتیں بھی تھیں۔

ممبئی کے ایک سفر میں ان کے مرکز تک بھی جانا ہوا کہ اسکول دیکھیں مگر اس کی چھٹی تھی تو ان کا

دفتر اور اس کے متعلقات بھی دیکھے جو بے فائدہ نہ رہا۔

اسی عید کے بعد کی بات ہے کہ ایک ضرورت سے دہلی کا سفر ہوا تو جامع مسجد کے علاقے میں مکتبوں سے گذرتے ہوئے ایک جگہ ڈاکٹر ذاکر نانیک صاحب اس حال میں مل گئے کہ مجھ جیسا آدمی ان کے افکار و نظریات سے براہ راست مستفید ہو سکے اور وہ یوں کہ ایک مکتبہ میں ایک اسٹینڈ پر آویزاں ان کی چند چیزیں بزبان اردو نظر آئیں رک گیا۔ نظر ڈالی کچھ دیکھا، داعیہ ہوا کہ چیز مل رہی ہے تو خریدوں اور پڑھوں اور براہ راست واقف ہوں۔

چیزیں تو کئی تھیں جو بڑا مجموعہ تھا اور جس میں اکثر دوسری مختصر و منفرد تحریریں شامل تھیں، اسی مجموعہ کو خریدا اور اسی سفر میں نقد مستفید ہوا اور اس مطالعہ و استفادہ کا حاصل آئندہ سطور میں پیش کیا جا رہا ہے۔

حاصل مطالعہ پیش کرنے کے دو محرکات ہیں ایک تو یہ کہ حق تعالیٰ نے علم و دین کی خدمت میں کچھ اس طرح لگا رکھا ہے کہ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نانیک صاحب کی بابت کیا رائے ہے؟ اور دوسرا محرک ہے الدین نصیحة۔

فی الوقت بہتر یہ سمجھا گیا ہے کہ قابل تبصرہ و قابل غور شائع شدہ چیز کو بمن و عن نقل کیا جائے اور مکمل عبارت و بات کے بعد ہی کچھ کہا جائے اور چند چیزوں کو ہی لیا جائے۔

دین کے کام کی نزاکت اور داعی حق کی پہچان

دین کا کام بڑا نازک اور بڑی ذمہ داری کا ہے اور ساتھ ہی بہت وسیع، بڑے پہلو اور شکنیں و صورتیں رکھتا ہے۔ اور اس عالم اسباب میں حق تعالیٰ یہ کام ہم انسانوں سے ہی لیتا ہے اور مشکلات و مسائل و آزمائشوں کے ساتھ مفید ثمرات و نتائج سے بھی سرفراز فرماتا ہے۔

اور عموماً یہ کام انہیں لوگوں سے لیا جاتا ہے جو خود مسلمان، ایماندار، دیندار، جو کچھ کہیں اس کے پاسدار ہوتے ہیں کہ خود بھی مانتے جانتے کرتے ہیں بلکہ کہنے سے زیادہ کرنا و ماننا ان کے اندر ہوتا ہے، یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اسی کی وجہ سے دعوت میں روح و جان آتی ہے اور پھر یہ کہ کسی کام کی دعوت دینے والے اس کے صرف داعی نہیں بلکہ رہبر و مقتدا بھی ہوتے ہیں جو لوگ دعوت سے متاثر ہیں اس کو قبول کریں، وہ ان کو اپنا بڑا متمدن و مقتدا مانتے ہیں اور وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں کہ کہنے والا خود کس حد تک کر رہا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ انبیاء و رسل اور ان کے سچے مخلصین و جانشین علماء و اہل اللہ گفتار سے بڑھ کر کردار کے حامل و غازی اور قول سے زیادہ فعل کے داعی ہوتے ہیں۔

لیکن اللہ کی ذات بڑی ہی بے نیاز ہے پھر اس کے کاموں میں بڑی بڑی مصلحتیں و حکمتیں ہوتی ہیں خواہ فوراً وہ ہمارے لیے کھلیں یا نہ کھلیں، وہ اپنے دین کا کام، حق و حقانیت کی طرف لوگوں کو لانے کا یا پھیلانے و مضبوط کرنے اور حفاظت کا کام ایسے لوگوں سے بھی لیا کرتا ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ بسا اوقات علم کے ناقص اور عمل کے کمزور ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ اپنے مذہب و عقیدہ کی رو سے اللہ کے باغی اور اس کے دین کے مخالف و دشمن یا اس سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔

جیسے کہ بسا اوقات ایسے لوگ جن کا دین و مذہب کھلے طور پر اللہ سے بغاوت اور اس کی ذات و صفات کے انکار کا ہوتا ہے۔ لیکن ان کا کردار و عمل بڑا پختہ ہوتا ہے اور بہت صحیح باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں کسی قسم کی اخلاقی کمزوری و پستی نہیں ہوتی بلکہ اس اعتبار سے وہ انتہائی راستباز و

پاکباز اور حلال و حرام وغیرہ کی نسبت سے بڑے محتاط و پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے قول و فعل کی بنیاد پر ان کو غیر مسلم نہیں سمجھا و کہا جاسکتا۔ لیکن جب عقیدہ کی بات آتی ہے تو ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے سوا کسی دوسرے دین و مذہب سے وابستہ ہیں اور اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کو مسلمان گردانے کے لیے عمل کی درستگی کو دیکھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے عقیدہ کو کریدنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

اسی طرح کسی کو حق کا داعی ماننے و قرار دینے کے لیے صرف یہ کافی نہیں کہ وہ اسلام کی باتیں کرتا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سناتا ہے، لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو باتیں و فکریں پیش کی جا رہی ہیں قرآن و حدیث کے حوالوں سے اور آیات و روایات کے ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں؟ وہ باتیں کس حد تک قرآن و حدیث کے موافق ہیں؟

اور اس کا معیار یہ ہے کہ دین کے معروف و مسلمہ حقائق۔ جو صحابہ و سلف صالحین سے برابر منقول چلے آ رہے ہیں اور جن کو امت کا سوا داعی عوام اور بالخصوص خواص مانتے چلے آ رہے ہیں اور جن کی تفصیل و توضیح فی الجملہ قرآن مجید اور معتبر روایات و احادیث میں موجود ہے۔ یہ دیکھا جائے کہ ان کی موافقت کس حد تک ہے؟

رسول اللہ ﷺ کو ماننے کے ساتھ ان کے خواص کا اتباع، صحابہ و تابعین اور ان کے بعد ان کے اقوال و افعال کے امین و شارحین علماء امت کی تشریحات و توضیحات کو کیا حیثیت دی جا رہی ہے؟ عقائد کے باب میں عام کتب عقائد میں اہل حق کے جو عقائد، مثلاً العقیدۃ الطحاویہ وغیرہ میں ان کو کیا حیثیت دی جا رہی ہے؟ کتاب و سنت کی توضیح میں عقل کو خادم مانا جا رہا ہے یا حاکم و فیصل مانا جا رہا ہے؟

صورت حال یہ ہے کہ اسلام سے منسوب افراد اور جماعتوں و تحریکات کا معاملہ یہ عہد صحابہ اور قرون اولیٰ سے یہ ہے کہ سب کتاب و سنت کی طرف اپنی اور اپنی فکروں کی نسبت کرتے ہیں اور

قرآن و سنت سے حسب موقع استفادہ بھی کرتے ہیں۔ قرون اولیٰ کے معروف فرقہ..... خوارج، روافض، معتزلہ وغیرہ کا معاملہ ہو یا بعد کے اور حال کے ایسے افراد کا..... جبکہ ان معروف فرقہ کا حال معلوم ہے تو صرف قرآن و حدیث کی زبان اور ان کی نسبت حق و حقانیت کی معرفت کا معیار نہیں بن سکتا۔

اور سامنے آنے والا تاثر و تاثر بھی کافی نہیں اگرچہ اس کی وجہ سے کچھ اچھے نتائج بھی دکھائی دیں، بڑی معروف حدیث ہے جو صحیح بخاری میں بھی آئی ہے۔

”إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ“ حق تعالیٰ اس دین کو کسی برے آدمی سے بھی طاقت پہنچاتا ہے (اور اس سے اس کی تائید کراتا ہے۔)

یہ بات آپ نے ایک خاص واقعہ کے تحت فرمائی ہے کہ ایک غزوہ میں ایک صاحب بڑے جی و جان سے جنگ کر رہے تھے، آپ کے سامنے تذکرہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جہنمی ہے، لوگوں میں اس کا بڑا تاثر ہوا کہ بظاہر ایسا مخلص اور جہنمی! کچھ لوگ پیچھے لگ گئے کہ اس کا حال دیکھیں، وہ جنگ کرتے کرتے شدید زخمی ہوئے۔ زخم کی شدید تکلیف میں انہوں نے اپنی ہی تلوار سے خودکشی کر لی، اس پر بعض لوگ بھاگ کر آئے اور آپ سے عرض کیا بلکہ یہ تک کہا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ آپ کی بات سچ ثابت ہوئی، اس پر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔

کون مسلمان نہیں جانتا کہ نبی اکرم ﷺ کے چچا ابوطالب نے کس طرح اپنی سرپرستی کے ذریعہ نبی اکرم ﷺ کو دنیا سے رخصت ہوئے تو اپنے آبائی دین و مذہب پر جس پر نبی اکرم ﷺ تڑپ اٹھے۔ اور سنیے کہ دوسرے شفیق چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو مشرف باسلام ہوئے لیکن ہجرت سے پہلے حضرات انصار سے جب ہجرت کے لیے بات چیت ہو رہی تھی تو یہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے اور انصار سے کہہ رہے تھے کہ خوب سوچ سمجھ بڑی ذمہ داری لے رہے ہو۔ یہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ بدر کے قیدیوں میں تھے، انہوں نے سنا کہ مشورہ ہو رہا ہے کہ کفار کا لشکر تو تباہ ہو گیا، کیوں نہ

لپک کر اس قافلہ کو پکڑ لیا جائے جس کے لیے ہم لوگ نکلے ہیں، یہ قید کی حالت میں بولے: ایسا نہ کرنا کہ نصرت و فتح کا وعدہ خداوندی لشکر اور قافلہ دونوں میں سے ایک جماعت کے لیے تھا اور ایک پر تم کو فتح حاصل ہوگی، اس طرح انہوں نے ایک بڑے خطرے سے مسلمانوں کو بچایا۔

بہر حال ظاہر حال کسی بڑے فیصلے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کسی کو حق کا داعی مان کر اس کو بنایا جاتا ہے کہ اس کی باتوں و تحقیقات پر اعتماد کیا جاتا ہے، اس کے قول و فعل کو اسوہ و نمونہ مانا، بتایا و بنایا جاتا ہے تو ضروری ہے کہ کچھ غور و فکر کیا جائے اور جائزہ لیا جائے انہیں باتوں کا جن کا تذکرہ کیا گیا۔

آج بہت سے لوگ دین کے داعی و ترجمان کی حیثیت سے آگے آرہے ہیں، نمایاں ہو رہے ہیں، لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں، بعض کے پیچھے جم غفیر جا رہا ہے، چل رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے۔ ہم کس کو مانیں کہ وہ صحیح چل رہا ہے اور صحیح سمت جا رہا ہے؟

ایک معروف حدیث ہے کہ کسی کے اخلاق کو جاننا ہو تو پڑوسیوں سے پوچھو اور یہ تو بہت معروف ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔ اور بھی ہدایات ہیں ان کی روشنی میں اس شناخت کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ متاثر ہونے والوں اور جمع ہونے والوں میں صحیح دینی شعور رکھنے والے کتنے ہیں اور دینی خدمات سے وابستہ معتبر لوگ کس حد تک؟ ایسے لوگوں کی دعوت ان کے فکر و خیال کے موافق ہے؟ اور اگر کچھ معتبر لوگ قریب ہیں تو ان سے معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور وہ کیوں قریب ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ کسی غلط فہمی، معلومات کی کمی یا کسی مصلحت مزعومہ کے تحت وہ قریب دکھائی دے رہے ہوں۔

داعی حق کے اوصاف

دین حق کے داعی کو سمجھنے اور پرکھنے کی چند موٹی موٹی باتیں

(۱) دین نبی کے لیے قرآن کریم کے ساتھ سنت پر اعتماد ہے کہ نہیں؟ یا یہ کہ صرف قرآن پر ہی اعتماد ہے اور سنت کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے؟

(۲) قرآن نبی کے لیے صرف اپنی فہم و عقل پر اعتماد ہے یا یہ کہ اس کے ساتھ لغات عرب کی پوری تحقیق، نیز آیات قرآنیہ کی تشریح و توضیح میں جو معتبر احادیث محفوظ ہیں خواہ مرفوع ہوں نبی اکرم ﷺ سے منقول ہوں یا اکابر اہل علم صحابہ سے، اس کی بھی اہمیت اور اس سے بھی استناد ہے۔

(۳) احادیث سے اسناد میں آیا کوئی مخصوص رخ و خیال ہے کہ صرف متواتر یا صحیح احادیث یا صرف صحیحین حجت ہیں باقی --- نہیں --- یا یہ کہ جو بھی معتبر ذخیرہ ہے خواہ وہ غیر متواتر ہو اور خواہ وہ صحیح نہ ہو بلکہ حسن ہو اور صحیحین کے علاوہ دوسری معتبر کتابوں میں کیوں نہ ہو۔ وہ سب حجت و سند ہے۔

(۴) حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو نبی اکرم ﷺ اور امت کے درمیان واسطہ ہیں۔ جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام حق تعالیٰ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی بابت کیا خیال ہے، دین میں ان کا مقام و مرتبہ، نیز ان کے اقوال و افعال اور آثار کی حیثیت ہے؟ یا وہ عام انسانوں و مسلمانوں کے زمرے میں سمجھے جاتے ہیں اور ”نحن رجال و ہم رجال“ کی بات کہی جاتی ہے؟

(۵) حضرات تابعین سے لے کر اس عہد تک کے معتمد علی الامت بالخصوص قرون اولیٰ کے سلف صالحین جنہوں نے دین متین کی ہر اعتبار سے خدمت کی اور حفاظت کی اور آگے تک پہنچایا، ان کے حق میں کیا نقطہ نظر ہے؟ بالخصوص ائمہ اربعہ اور ان جیسے ممتاز حضرات۔

(۶) عقل خادم ہے یا مخدوم کہ اصل عقل کو سمجھا جا رہا ہے اور اس کے حدود و دائرہ میں دین کے سمجھنے و ماننے پر اصرار ہے یا یہ کہ اصل تو نقل و نص ہے جو اعتماد کے ساتھ ثابت ہو، عقل اس کی خادم ہے، ہو سکتا ہے کہ عقل سمجھے اور صحیح سمجھے اور ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھے یا غلط سمجھے۔

لمحہ فکر یہ

آج کل بالخصوص ہمارے ملک میں دین کے داعی و ترجمان کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائیک

صاحب کا نام بہت نمایاں ہو رہا ہے، کافی لوگ سن رہے ہیں اور جڑ رہے اور ایسا بھی نہیں کہ ان کی ہر بات سو فیصد غلط "خلاف شریعت" اور خلاف کتاب و سنت ہے۔ لیکن ان کی تقریر و تحقیق میں کافی باتیں ایسی ہیں اور آ رہی ہیں جو لمحہ فکریہ ہیں اور جن کو گذشتہ تفصیلات کی روشنی میں دیکھنے و سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی جو چیزیں ہم کو ملیں ان کے مطالعہ سے ہم نے جو سمجھا وہ پیش خدمت ہے، لوگ خود جائزہ لے سکتے ہیں اور براہ راست سمجھ سکتے ہیں۔

(۱) دین نبی کے لیے قرآن کے ساتھ سنت کی اہمیت ڈاکٹر صاحب کے یہاں ہے چنانچہ وہ آیات کے ساتھ روایات سے اپنی گفتگو کو مزین کرتے ہیں۔

(۲) لیکن سنت و احادیث سے اسناد میں ان کا نقطہ نظر وہ نہیں جو عام علماء امت کا ہے، جس کو بخاری کے مشہور شارح حافظ ابن حجر نے اور ان سے پیشتر ابن صلاح و امام نووی وغیرہ نے، نیز ان کے بعد کے حضرات نے لکھا اور اختیار کیا ہے کہ حدیث صحیح کے ساتھ حدیث حسن بھی حجت و سند ہے، بلکہ بعض مواقع و موضوعات میں حدیث ضعیف سے بھی کام لیا جاسکتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں ایک کتاب صحیح بخاری لکھی ہے جو اعلیٰ درجہ کی صحیح احادیث کا مجموعہ و منتخب ہے، وہیں انہوں نے "الأدب المفرد" کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں ضعیف احادیث بھی کثرت سے آئی ہیں۔ جیسے کہ ترمذی وغیرہ میں ایسی حدیثیں کافی آئی ہیں اور ان پر عمل کا بھی تذکرہ آیا ہے۔

(۳) قرآن نبی میں ڈاکٹر صاحب کا اعتبار و اعتماد صرف اپنی عقل و فہم پر ہے یا تھوڑا بہت لغت پر ہو سکتا ہے۔ ہم کو تو ان کے کلام میں معروف مواقع میں بھی روایات کا تذکرہ بھی نہیں ملا۔ اٹار صحابہ تو دور کی بات ہے مرفوع و معروف صحیح احادیث کا ذکر تک نہیں ہے اور لغات عرب کا مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ اس سلسلے کی بعض چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن خود ان کے ذکر و بیان سے واضح ہے کہ اس بابت ان کا علم و معلومات بہت ناقص ہے، اتنا بھی نہیں جتنا کہ فضلاء مدارس کو عموماً ہوتا ہے۔

(۴) علماء امت بشمول صحابہ و تابعین و ائمہ مجتہدین وغیرہ کے بارے میں صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اس پہلو کی کوئی اہمیت نہیں، ہم نے ان کی تقریر و تحقیق پر مشتمل پانچ سو سے زائد صفحات جو پڑھے اور دیکھے ان میں متقدمین و متاخرین کسی طبقے کے کسی عالم اور کسی کی کتاب کا شاید ہی کہیں کوئی تذکرہ ہو۔ ہاں، مقررین و مفکرین یا ڈاکٹر صاحب جیسے بعض حضرات کا ذکر و حوالہ ضرور مل سکتا ہے۔ کسی کسی جگہ علماء کا ذکر ہے۔ مگر نام کے بغیر علماء، اکثر علماء، بعض علماء وغیرہ، مگر کون؟ اس کا ذکر تو نہ کرہ نہیں۔

(۶) ان کے بیان و جوابات سے یہ بھی صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ عقل کو خادم نہیں بلکہ مکمل نہ ہی تو فی الجملہ اصل مانتے ہیں، اس لیے وہ عقل سے اور صرف اپنی عقل و فہم سے براہ راست کام لیتے ہیں اور کسی بھی مسئلے کا جواب دیتے ہیں اور کوئی بھی مسئلہ بے تکلف آیات سے نکال کر پیش کر دیتے ہیں اور آیات کو اس پر منطبق کر دیتے ہیں۔

یہ باتیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ براہ راست ڈاکٹر صاحب کی چیزوں کو پڑھنے کے بعد اور سامنے رکھ کر کہی جا رہی ہیں، اس بابت کچھ چیزوں کا انتخاب کر کے چند مضامین کی شکل میں مرتب بھی کیا گیا ہے اور اہل علم کی خدمت میں پیش کر کے ان کی تائید بھی حاصل کی گئی ہے۔ ان مضامین میں آنے والے انتخابات سے مذکورہ بالا امور واضح ہیں، مزید برآں بعض واضح اقتباسات پیش خدمت ہیں۔

(۱) مسالک اربع پر غلط تبصرہ

ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں (ص ۶۶۰-۶۶۱): - ہمیں ائمہ اسلام کا احترام کرنا چاہیے جس میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ کرام شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے بڑے عالم اور فقیہ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تحقیق اور محنت کا اجرا نہیں عطا فرمائے۔ اگر کوئی شخص امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد و روایات اور ان

کی تحقیق سے متفق ہوتا ہو تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ اسی سوال کے جواب میں مزید جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں ان سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب چاروں مذاہب اور ان سے نسبت کو اسلام میں تفرقہ اور گروہ بندی مانتے ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں:

(ص: ۴۳۹) ”جب کسی مسلمان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کون ہو تو عموماً یہ جواب ملتا ہے کہ میں سنی ہوں یا شیعہ ہوں۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے کو حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی کہتے ہیں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ میں دیوبندی یا بریلوی ہوں، ایسے لوگوں سے پوچھا جاسکتا ہے کہ ہمارے نبی ﷺ کیا تھے؟ کیا وہ حنبلی، شافعی، حنفی، یا مالکی تھے؟ بالکل نہیں؛ وہ اللہ کے تمام پیغمبروں جیسے ہی مسلمان تھے جو ان سے پہلے ہوئے۔“

اور ڈاکٹر صاحب کا یہ ارشاد بھی ملاحظہ ہو۔

(ص: ۴۳۱) ”حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی ﷺ نے تہتر فرقے بننے کی پیشین گوئی کی ہے مگر آپ ﷺ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان فرقوں میں تقسیم ہونے کی کوشش کریں، جو لوگ قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور وہ فرقے نہیں بناتے اور نہ لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں وہی سیدھے راستے پر ہیں۔“

اس کا مطلب تو بظاہر یہی ہے کہ چاروں مذاہب کے ماننے والے تفرقہ کا شکار ہو کر سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔

اس سوال و جواب کا آخری پیرا گراف ملاحظہ ہو۔

(ص: ۴۳۲) ”قرآن کی بہت سی آیات یہ کہتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک مسلمان کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا چاہیے، وہ کسی عالم یا امام سے متفق ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کے عقائد و نظریات قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہوں اور اگر ان کے عقائد و نظریات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور سنت نبوی ﷺ کے خلاف ہوں تو ان کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے چاہے وہ کتنا بڑا ہی عالم یا رہنما کیوں نہ ہو۔ اگر تمام مسلمان قرآن ہی کو سمجھ کر اس کا مطالعہ کریں

اور صحیح حدیث پر عمل کریں تو ان شاء اللہ سب اختلافات ختم ہو جائیں گے اور مسلمان ایک متحد امت بن جائیں گے۔“

ڈاکٹر صاحب نے جس انداز میں اس پیرے کو اپنی سابق گفتگو سے جوڑا ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نزدیک چاروں مذہب کے ماننے والے اللہ اور رسول کی اطاعت سے الگ ہیں۔

حدیث پر عمل کا معیار

پھر اس پیرائے میں قرآن کے ساتھ ”حدیث“ پر عمل کی بات کے بجائے صحیح حدیث پر عمل کی بات دو مرتبہ کہی گئی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں صرف حدیث صحیح ہی قابل عمل ہے، اور دوسری احادیث اگرچہ وہ بھی اعتبار رکھتی ہوں وہ قابل عمل نہیں ہیں جبکہ عام علماء امت کا رجحان کچھ اور ہے جیسا کہ پیچھے لکھا جا چکا ہے اور یہ طے ہے کہ ہر مسئلہ میں صحیح حدیث پیش کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، جس کا جی چاہے تحقیق کر لے اور مطالعہ و جستجو کر لے۔

ابن القیم جیسے صاحب نظر عالم نے لکھا ہے کہ چاروں اماموں میں سے ہر ایک کے بعض مسائل ضعیف احادیث پر مبنی ہیں، اور آج کل اہل حدیث حضرات نے نماز سے متعلق مسائل کی جو کتابیں لکھی ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں تو ان کتابوں میں بھی ایک بڑی تعداد آپ کو احادیث ضعیفہ کی ملے گی۔ ان کی سب سے معروف کتاب ”صلوٰۃ الرسول“ کی روایات کو ہی آپ دیکھ لیں۔

ڈاکٹر ذاکر نائیک کی تقریر ”قرآن اور جدید سائنس“ کے

چند اہم اقتباسات اہل علم کی خدمت میں

میرے سامنے ڈاکٹر ذاکر صاحب کے خطابات کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جو فریڈ بک ڈپو، دہلی کا شائع کردہ ہے۔ اس کا پہلا خطاب سب سے مبسوط ہے اور عنوان بھی بڑا مضبوط ہے جو اوپر مذکور ہے۔ پورے خطاب میں آیات قرآنیہ مع ترجمہ ہیں اور سائنسی نظریات حوالہ جات کے ساتھ یا ان کے بغیر۔ آیات کو موجودہ سائنسی نظریات کے ساتھ تطبیق میں پیش کیا گیا ہے۔ قرآن فہمی یا تفسیر میں جو کچھ کہا

گیا ہے اس میں کہیں احادیث و روایات کا تذکرہ و حوالہ یا ان سے تعرض نہیں ہے۔ یا یوں کہیے کہ نبی اکرمؐ، صحابہ یا علماء امت رحمہم اللہ سے کس آیت کی تفسیر میں کیا منقول ہے اس کا کوئی ذکر و تذکرہ نہیں ہے، کہیں لغوی معنی کو لیا گیا ہے مگر اپنے علم و فہم کے مطابق، نہ کہ مختار و معروف لغوی معنی، یا تفسیر و روایات کے مطابق۔

اس مضمون میں اس خطاب خاص کے کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔

(۲) زمین کی ہیئت کی تحقیق میں غلط استدلال، ص: 72-73

(۱) زمین بالکل گیند کی طرح گول نہیں بلکہ ارضی بیضوی ہے یعنی یہ کہ یہ قطبین پر چبٹی ہے، مندرجہ ذیل آیت زمین کی شکل کی وضاحت کرتی ہے۔

وَالْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ” اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا“ [سورہ نزلعت: ۳۰]

یہاں انڈے کے لیے استعمال کیا جانے والا عربی لفظ دَحَاهَا ہے، جس کا مطلب ہے شتر مرغ کا انڈا۔ شتر مرغ کا انڈا زمین کی شکل سے مماثلت رکھتا ہے، لہذا قرآن کریم مکمل درستگی سے زمین کی شکل کی وضاحت کرتا ہے، حالانکہ اس وقت جب قرآن اتارا گیا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ زمین چبٹی (FLAT) ہے۔

تحقیق و تبصرہ

ڈاکٹر صاحب نے دَحَاهَا، کے معنی انڈا اور شتر مرغ کا انڈا ذکر کیا ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ ”دَحَا“ کا لفظ مادہ عربی زبان میں پھیلانے اور پھیلانے کا مفہوم رکھتا ہے، اسی کے مطابق دَحَاهَا کی تفسیر و ترجمہ زمین کو پھیلانے سے اور اس میں موجود اشیاء کے پیدا کرنے سے کیا گیا ہے جیسا کہ معروف ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر سورہ والنزعات ج ۸ ص ۳۳۹ طبع اشعب مصر) یہ لفظ مادہ انڈے کے معنی میں نہیں آتا۔ میں نے لسان العرب سے مراجعت کی تو لفظ کی معنوی تفصیلات میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملا کہ یہ لفظ انڈے کے معنی میں آتا ہے البتہ یہ بات ملی جس کا ذکر راغب اصفہانی نے بھی کیا ہے کہ اُس مادہ

سے ایک لفظ ادھیہ ماخوذ ہے جو زمین کے اس حصے کے لیے بولا جاتا ہے جس میں شتر مرغ اٹھاتا ہے اور اس پر بیٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اس جگہ یا انڈے کو پھیلاتا اور بڑھاتا ہے۔

(۳) چاند سورج کی روشنی سے متعلق سائنسی نظریہ کی تصحیح کے لیے قرآن کی غلط تفسیر جس: 74-73

تَبْرُكُ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

(اور اللہ) بڑی برکت والا ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور ان میں (آفتاب کا نہایت

روشن) چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا [پارہ: ۱۹/سورۃ الفرقان: ۳۰]

سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں، اسے سراج بھی کہا جاتا ہے جس کے معنی مشعل (Torch) کے ہیں یا بعض مواقع میں اسے ”دہاج“ یعنی جلتا ہوا چراغ کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یہ تمام سورج کے لیے مناسب ہیں، کیونکہ سورج احتراق کے عمل کی بدولت روشنی اور حرارت مہیا کرتا ہے جبکہ عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں اور اسے قرآن کریم میں منیر کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے یعنی کہ وہ جسم جو کہ منعکس شدہ روشنی دیتا ہو۔

یہاں پر قرآنی لفظ چاند کی اصل ماہیت سے میل کھاتی ہے جو کہ خود روشنی نہیں دیتا بلکہ محض سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے۔ قرآن کریم میں کسی بھی جگہ چاند کو سراج یا دہاج کے الفاظ سے نہیں پکارا گیا اور نہ ہی سورج کو نور یا منور کے لفظ سے پکارا گیا ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن سورج اور چاند کی روشنیوں کی نوعیت میں فرق روا رکھتا ہے..... لہذا قرآن کریم اور جدید سائنس سورج اور چاند کی روشنی کے فرق پر مکمل طور پر متفق ہیں۔

تحقیق و تبصرہ

سورج اور چاند دو الگ الگ چیزیں ہیں روشن و روشنی دینے والی جیسے یہ بدیہی ہیں دونوں کی روشنیوں کا فرق بھی بدیہی ہے، ہر ذی شعور محسوس کرتا ہے اور جانتا ہے کہ دونوں کی روشنی کی نوعیت و کیفیت میں فرق ہے اور تاثیر میں بھی، اور آج کی سائنس جس چیز کو بتا رہی ہے اس میں کوئی حرج

نہیں کہ اس کو مان لیا جائے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں، تاہم یہ کیا ضروری ہے کہ اسے قرآن کریم کے الفاظ و بیانات کا مدلول بھی مانا، بتایا اور ثابت کیا جائے، اس لیے کہ ایسے کسی دعویٰ کی تائید کے لیے جب کہ دعویٰ حصر اور تعین کے ساتھ ہولغات عرب اور روایات دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی تائید کی ضرورت ہے۔

ڈاکٹر ڈاکرنا نیک کی علمی کمزوریاں

احقر کے علم کے مطابق کوئی روایت تو ہے نہیں، اب رہ گئی لغت عرب، تو وہ بھی اس کو نہیں بتاتی کہ شمس و سراج کے مفہوم میں خود، ذاتی طور پر جلنا اور قمر و نور کے مفہوم میں غیر ذاتی روشنی کے مزین ہونا داخل ہے، جبکہ لفظ نور قرآن کریم میں نہ جانے کتنی جگہ اور کتنے مواقع و مصداق میں استعمال ہوا ہے، حتیٰ کہ کسی کو حق تعالیٰ نے اپنے لیے بھی اس کو ذکر فرمایا ہے۔

[پارہ: ۱۸، سورہ نور: ۳۵]

اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور ایک موقع پر ”منیر“ کا لفظ جس کو ڈاکٹر صاحب نے اہم اور مدعا کی بنیاد بنایا ہے۔۔۔ یہ لفظ سراج کے ساتھ بطور صفت کے استعمال ہوا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۵﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ
وَسِرَاجًا مُنِيرًا

[پارہ: ۲۲، سورہ احزاب: ۴۵، ۴۶]

اس آیت کا تعلق نبی اکرم کی تعریف و توصیف سے ہے، آپ اکو ”سراج منیر“ فرمایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق لفظ ”سراج“، ”شمس و سورج“ سے مناسبت رکھتا ہے اور نہ یہ لفظ قمر کے لیے آیا اور نہ منیر کا لفظ سورج کے لیے آیا۔ اور آیت مذکورہ میں منیر کا لفظ سراج کے ساتھ آیا ہے اور مفسرین نے اس کا مفہوم ”روشن سورج“ کا ذکر کیا یعنی ہدایت کا روشن سورج بنایا۔

[تفسیر ابن کثیر: ج ۶/۳۳۱]

(۴) آیت کی غلط تخصیص ص 79 پلازما یعنی بین النجوم مادہ

پہلے یہ خیال عام تھا کہ منظم فلکیاتی نظام کے باہر صرف خلا (Vaccum) ہے، فلکی طبعیات کے ماہرین نے بعد ازاں اس درمیانی خلا میں ”مادے کے پل“ دریافت کیے، مادے کے یہ پل پلازما کہلاتے ہیں، قرآن پاک اس آیت میں ستاروں کے درمیان موجود مادے کی طرف اشارہ کرتا ہے، **الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا** ”وہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ اور زمین کو اور جو ان کے درمیان ہے۔“ [پارہ: ۱۹، سورۃ الفرقان: ۵۹]

تحقیق و تبصرہ

ڈاکٹر صاحب نے کس فہم کی بنیاد پر اتنا بڑا دعویٰ کیا یا اس دعویٰ سے آیت مذکورہ کو جوڑا، تعجب خیز ہے، آیت میں نجوم و ستاروں کا کوئی ذکر نہیں جبکہ آیت کا آخری ٹکڑا چھوڑ دیا گیا ہے۔ پوری آیت ہے۔ **الذی خلق السموات والارض وما بینہما** ستہ ایام۔

آیت کا مقصود و مضمون چھ دنوں کے اندر پوری کائنات، زمین تا آسمان، آسمان تا زمین کے پیدا کرنے کو بتانا ہے، اس لیے **وَمَا بَيْنَهُمَا** کا واضح ترین مفہوم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، سورج، چاند، ستارے، خلا و فضا، اور زمین کے جسم کے متصل اشیاء سب کی پیدائش کل چھ دن کی مدت میں ہونی ہے جیسا کہ قرآن مجید نے دوسرے مواقع میں بھی ذکر کیا ہے۔

(۵) پھیلتی ہوئی کائنات کے سائنسی نظریہ کے اثبات پر آیت کی بے جا تفسیر، ص: ۸۰۔

1925ء میں امریکی ماہر فلکیات Edwin Hubble نے مشاہداتی ثبوت مہیا کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، کائنات کا پھیلتے جانا اب ایک واضح سائنسی حقیقت ہے اور یہی وہ بات ہے جو کائنات کی کیفیت کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے۔

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

ترجمہ: اور ہم نے آسمان کو بنایا قوت سے اور بیشک ہم وسیع القدرت ہیں

[پارہ: ۲۷، سورۃ الذاریات: ۴۷]

عربی لفظ موسعون کا درست ترجمہ پھیلا رہے ہیں بنتا ہے اور یہ پھیلتی ہوئی کائنات کی طرف

اشارہ کرتا ہے۔

تحقیق و تبصرہ

عربی کا لفظ وسعت، قدرت و طاقت اور کشادگی کے معنی بھی رکھتا ہے، سیاق و سباق، موقع و محل کے کسی معنی و مفہوم کی تعین ہوتی ہے، یہاں آیت کا موقع قدرت ہی کے مفہوم کا ہے، خود ڈاکٹر صاحب کا نقل کردہ ترجمہ ”وسیع القدرت“ ہے پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کو ایک سائنسی نظریہ سے جوڑ دیا ہے جس کا کتاب و سنت میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے اور نہ اس مفہوم کا کسی مفسر نے تذکرہ کیا ہے۔ (میرے سامنے تفسیر حاوی ہے جس میں صحابہ و تابعین وغیرہ کے تفسیری اقوال جمع کیے گئے ہیں۔ جلد چہارم ص ۱۰۶۔ سورۃ ذاریات آیت مذکورہ کے تحت چند اقوال ہیں سب کا قدر مشترک قدرت و طاقت ہے یا یہ کہ اتنا بڑا یا اس سے بڑا یا اس جیسا آسمان ہم بنا سکتے ہیں۔

راغب اصفہانی نے بھی اسی مفہوم کا تذکرہ کیا ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر (ج: ۸، ص: ۴۰۱، ۴۰۲ طبع الشعب

مصر) میں بھی یہی آیا ہے کہ ہم نے آسمان کو خوب پھیلا یا ہے اور بغیر ستونوں کے اس کو بلند کیا ہے۔

ڈاکٹر ذاکر نائیک شرعی و فقہی مسائل و احکام سے متعلق

میرے سامنے نانک صاحب کا وہ خطاب ہے جو ”اسلام میں عورتوں کے حقوق“ کے موضوع

پر ہے اور ان کے مجموعہ خطبات میں تیسرے نمبر پر ہے، اس خطاب کے سوال و جواب والے حصے

سے نیز سوال و جواب کا جو مستقل جزو ہے اس سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں البتہ تمہیداً

”عورتوں کے حقوق“ رسالے سے ایک ٹکڑا۔ اہل علم کے لیے پیش خدمت ہے۔

(۶) مغربی نظریہ مساوات کی تائید اور آیت قرآنی کی من مانی تفسیر

وترجمانی، ص: 295، سطر: ۴/ تا ۱۱۱۔

[پارہ: ۵، سورہ نساء، ۳۳]

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

لوگ کہتے ہیں کہ لفظ ”قوام“ کا ایک درجہ اوپر ہونے کے ہیں لیکن اصل میں لفظ قوام اقامہ سے نکلا ہے، اقامہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز سے پہلے اقامت کہتے ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، لہذا اقامہ کا مطلب کھڑا ہونے کے ہیں، لہذا لفظ ”اقامہ“ کا مطلب ہوا کہ ایک درجہ ذمہ داری میں اونچا ہے نہ کہ فضیلت میں۔“

تحقیق تبصرہ

عبارت تو ناظرین دیکھ لیں، مقصد یہ ہے کہ مرد کچھ ذمہ داری زیادہ رکھتا ہے افضل نہیں ہے، اہل مغرب کے دعویٰ مساوات کو اسلام سے ثابت کرنے اور بتانے کے سیاق میں یہ بات آئی ہے اور جس انداز میں ”قوام“ پر گفتگو اور اقامت نماز سے استدلال ہے وہ قابل توجہ ہے۔

نوٹ : ڈاکٹر صاحب کی عبارت ”ذمہ داری میں اونچا ہے“ فضیلت کا اثبات کر رہی ہے، جبکہ فضیلت کی نفی کا دعویٰ ہے، اس طرح کے تضادات ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں عام ہیں۔

(۷) عورت کے لیے حق طلاق اور طلاق کی نئی دریافت، ص: 360۔

بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر مرد طلاق دے سکتا ہے تو کیا عورت بھی طلاق دے سکتی ہے؟

جواب : عورت طلاق نہیں دے سکتی کیونکہ طلاق عربی کا لفظ ہے اور جب ہی استعمال ہوتا ہے جب کوئی مرد اسے عورت کے لیے بولتا ہے لیکن عورت طلاق دے سکتی ہے۔

اسلام میں پانچ قسم کی طلاق ہے

۱۔ پہلی قسم بالرضا ہے جو کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے اور دونوں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے

درمیان ہم آہنگی ممکن نہیں لہذا جدا ہو جاتے ہیں۔

۲۔ دوسری قسم یکطرفہ مرضی پر ہے جو کہ طلاق کہلاتی ہے جس میں کہ اسے حق مہر ادا کرنا ہوتا ہے، اگر اس نے ادا نہیں کیا ہوا تو اسے کرنا پڑے گا۔ تحائف سمیت جو کہ اس نے دیے ہوئے ہیں۔

۳۔ تیسری قسم بیوی کی یکطرفہ مرضی پر ہے اگر وہ اپنے نکاح نامے میں اس کا ذکر کرتی ہے۔ اگر وہ اپنے نکاح نامے میں (Mention) کرتی ہے کہ اسے طلاق دینے کا حق ہے تو وہ اسے دے سکتی ہے یہ ”رسماً“ کے طور سے جانا جاتا ہے میں نے آج تک کسی کو ”رسماً“ کے متعلق بولتے نہیں سنا، یہ ”رسماً“ کہلاتا ہے یعنی کہ عورت طلاق دے سکتی ہے۔

۴۔ چوتھی قسم یہ کہ اگر شوہر اسے مارتا پیٹتا ہے یا مساوی حقوق نہیں دیتا تو یہ اسے یہ اختیار ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے جو کہ نکاح کو فسخ کر دے، یہ نکاح فسخ کہلاتا ہے۔ اس کے مطابق قاضی شوہر کو حکم دے سکتا ہے کہ وہ اسے پورا حق مہر دینے کا پابند ہے یا مہر کا کچھ حصہ، یہ قاضی پر منحصر ہے۔

۵۔ پانچویں اور آخری قسم خلع کی ہے کہ اگر شوہر بہت اچھا بھی ہے اور بیوی کو اس کے خلاف کوئی شکایت بھی نہیں لیکن اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر وہ شوہر کو پسند نہیں کرتی تو وہ شوہر سے درخواست کر سکتی ہے کہ وہ اسے طلاق دیدے اور یہ خلع کہلاتا ہے۔

لیکن بہت کم لوگ عورت کے طلاق دینے کی بات کرتے ہیں۔ علماء نے طلاق کی پانچ اقسام رکھی ہیں، کچھ ایک دو اور تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں لیکن تمام طریقہ عمل پانچ طلاق کی قسموں والا بھی ہے، میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب ختم ہوا۔

تحقیق و تبصرہ

ڈاکٹر صاحب نے طلاق کی جو پانچ اقسام ذکر کی ہیں۔ ان پر نمبر ڈالنے اور الگ الگ کر کے لکھنے کا کام ہم نے کیا ہے، بقیہ من و عن ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ذکر کردہ تفصیل میں اگر تفصیل میں جایا جائے تو بہت دکھ ہے۔ ہم مختصر آہی کچھ ذکر کریں گے۔

۱۔ طلاق کی پانچ اقسام..... ڈاکٹر صاحب نے یہ تفصیل کہاں سے اور کس سے لی ہے؟ انہوں

نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ علماء کا ذکر تو کیا مگر نام نہیں لیا، اس لیے حوالہ انہیں سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ہماری جو معلومات ہیں اور جو حاصل بھی کیں ان میں اس انداز کی تفصیل کہیں نہیں ہے۔ اس وقت کی سب سے مبسوط اور چاروں فقہی مذاہب کے معروف معتمد اقوال پر مشتمل کتاب ”الموسوعة الفقهية“ ہے جس کو ۲۵ جلدوں میں کویت کی وزارة الاوقاف نے شائع کیا ہے، اس کی ۲۹ ویں جلد ہمارے سامنے ہے۔ اس میں طلاق کی تفصیل ہے، شروع بحث میں طلاق اور اس سے متعلق الفاظ کے ذکر کے ساتھ (ص: ۵ تا ۸) اور اسی طرح طلاق کی اقسام کی تفصیل میں (ص: ۲۶ وما بعد) ڈاکٹر صاحب کی مذکورہ پانچ اقسام کا مذکورہ تفصیلات کے ساتھ کوئی ذکر و تذکرہ موجود نہیں ہے۔

اس وقت کی ایک معروف مبسوط و مستند فقہی کتاب ”الفقه الاسلامی وادلته“ ہے جس کے مصنف عالم اسلام کے معروف و ہیبیہ زحیلی ہیں اور یہ چاروں مذاہب کے علاوہ بعض دوسرے کا مذاہب کی تفصیلات پر بھی مشتمل ہے۔ اس میں بھی طلاق اور اس کی اقسام کے بیان میں اس مضمون کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔

۳۔ طلاق نکاح کے بعد اور منکوحہ کو ہی ہوتی ہے اور ایک منکوحہ عورت بغیر طلاق یا باضاہلہ علیحدگی و تفریق کے بغیر نیا نکاح نہیں کر سکتی، خواہ کیسے ہی حالات ہوں اور مجبوری ہو۔ مخصوص حالات کا حل شریعت نے رکھا ہے اور کتب فقہ میں موجود ہے۔

۴۔ طلاق کا حق۔ استقلالاً صرف اور صرف اسی مرد کو ہے جس سے کسی عورت کا رشتہ ازدواج ہوتا ہے حتیٰ کہ اس صورت میں بھی جبکہ ایک باپ اپنے نابالغ بیٹے کے لیے ایجاب و قبول کر کے نکاح کرتا ہے، طلاق دینے کا حق باپ کو نہیں بلکہ اسی نابالغ بیٹے و شوہر کو ہے اور یہ حق بھی اس صورت میں اس کو بعد البلوغ ہے۔

۵۔ نکاح کرنے والے مرد کے سوا کوئی دوسرا عاقل و بالغ آدمی نکاح کرنے والے کی نیابت میں اس کی طرف سے طلاق واقع کرنے یا علیحدگی کا حق رکھتا ہے، خواہ یہ نیابت خود نکاح کرنے

والے نے دی ہو یا اس سے حاصل کی گئی ہو یا شریعت نے اس کی اجازت دی ہو لیکن شریعت کی اجازت صرف قاضی کے لیے ہے۔ نہ حکم کے لیے بھی اس وقت ہے جبکہ حکم کو شوہر کی طرف سے یہ حق دیدیا گیا ہو۔

۶۔ عورت کو اصلاً و استقلالاً طلاق کے ایقاع یا رشتہ کے ختم کرنے کے اقدام کا حق نہیں ہے۔ البتہ وہ شوہر سے اس مطالبہ کا حق رکھتی ہے۔

۷۔ عورت کو اپنی مرضی سے طلاق واقع کرنے کا حق صرف اس صورت میں ہے جبکہ شوہر کی طرف سے اُس کو یہ حق دیدیا گیا ہو، شوہر نے خود دیا ہو یا عورت نے اس سے کہہ کر حاصل کیا ہو، اور نکاح کے وقت ہی یہ حق حاصل کر لیا گیا ہو یا بعد میں؛ بہر حال عورت کو شوہر کی طرف سے اگر یہ حق مل جائے تو اس صورت میں وہ محض اپنی مرضی و صوابدید سے اس حق کا استعمال کر کے رشتہ کو ختم کر سکتی ہے۔

۸۔ شوہر کی رضا سے عورت کو حاصل ہونے والے حق تفریق کی مختلف شکلیں و صورتیں ہیں جو کتب فقہ و حدیث میں معروف ہے، فقہ و حدیث کی شاید ہی کوئی تفصیلی کتاب ہو جس میں اس حق اور اس کی تفصیلات کا تذکرہ نہ ہو، بعض صورتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورہ احزاب سورت نمبر ۳۳ آیت ۲۸ کا تعلق اسی سلسلے سے ہے۔ جس میں حضرات ازواج مطہرات سے خطاب اور ایک خاص واقعہ کا ذکر ہے۔

۹۔ ڈاکٹر صاحب کی ذکر کردہ پانچ اقسام و تفصیلات میں بعض باتیں وہ ہیں جو معروف و متفق علیہ احکام و تفصیلات کے خلاف ہیں؛ ایک تو یہ کہ انہوں نے مہر کی ادائیگی کا ذکر صرف دوسری صورت میں کیا ہے اور چوتھی میں یہ ذکر کیا ہے کہ مہر کتنا ادا کرنا ہے، یہ قاضی کے فیصلہ پر ہے یہ بات چند وجوہ سے قابل غور ہے۔

(الف) جبکہ صورت یہ ہے کہ نکاح کے ساتھ مہر کا تعلق لازم و ملزوم ہے۔ حتیٰ کہ نکاح ہوا

اور کچھ طے نہیں ہوا اور ملاقات و صحبت کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ رشتہ ختم ہو گیا تو اس صورت میں بھی مہر ادا کرنا ہوتا ہے۔ مہر مثل یا متعہ کے نام و عنوان سے نصف مہر مثل کے مساوی، اور طے ہونے کی صورت میں کل طے شدہ یا نصف ادا کیا جاتا ہے۔ نکاح کے بعد فرقت ہو اور شوہر پر کچھ نہ ہو؛ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ عورت صراحتاً حق مہر معاف کر دے یا ایک دو صورتیں اور ہیں جو شاذ و نادر کے درجے میں ہیں۔ بہر حال مہر ایک حق شرعی ہے جو وجود نکاح اور صحت نکاح کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور شوہر کو کسی نہ کسی صورت میں عموماً اسے ادا کرنا ہی ہوتا ہے اس لیے ڈاکٹر صاحب دوسری اور چوتھی کے ساتھ تخصیص کرنا تجدید شریعت یا تحریف شریعت کے مراد ہے۔

(ب) اور مہر کی مقدار کیا ہوگی اس کو نکاح ہو جانے کے بعد کسی کی مرضی و صوابدید پر نہیں رکھا گیا ہے بلکہ اس کا نظام شریعت کی طرف سے طے شدہ و مقرر ہے، ایجاب و قبول میں جو طے ہوا وہ..... یا اس کا نصف اور اگر ایجاب و قبول میں طے نہیں ہوا تو بعد میں زوجین جو طے کر لیں..... یا مہر مثل اور اس کا نصف..... اس میں رد و بدل کم و بیش کا حق و اختیار اگر ہے تو زوجین ہی کو..... کہ بیوی کو ملنا دینا ہے اور شوہر کو ادا کرنا دینا ہے..... حتیٰ کہ نکاح کے انجام پا جانے کے بعد پھر معروف قول کے مطابق اولیاء کا بھی کوئی حق و اختیار نہیں رہ جاتا۔ قاضی کو حالات کے تحت رشتہ کے ختم کرنے یا کرانے کے فیصلہ کا حق تو ہے مگر مہر میں رد و بدل یا کچھ طے کرنے کا حق نہیں ہے۔

۱۰) پانچ اقسام کے تعارف میں ذکر کردہ تفصیلات بھی محل نظر ہیں فسخ و خلع کے صرف وہ اسباب نہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے اور نہ ہی باہمی رضاد بات چیت کے ساتھ اس طرح طلاق و فرقت ہوتی ہے جس طرح ذکر کیا گیا ہے، شریعت نے اس بابت کچھ ضابطے، اور الفاظ متعین کیے ہیں ان کی رعایت بھی رکھنی ہوتی ہے اور اسی کے مطابق احکام کا ترتیب ہوتا ہے۔

نوٹ : مہر و طلاق سے متعلق اس نئی دریافت کا ماخذ کون سی شریعت ہے ذاکر نائیک صاحب اس کا جواب دیں۔

(۸) مرد و عورت کی گواہی میں فرق یا مساوات، ص: 409، سوال: 9۔

سوال: اسلام میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں ہے؟
جواب: اسلام میں دو عورتوں کی گواہی ہمیشہ ایک مرد کے برابر نہیں ہے، قرآن مجید کے اندر تین مقامات پر مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر گواہی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔

وراثت کے بارے میں وصیت کے وقت دو عادل گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ سورہ مائدہ: ۵، آیت: ۱۰۷ میں قرآن کہتا ہے۔ ترجمہ.....
اور طلاق کے بارے میں دو عادل کو گواہ بنانے کا حکم ہے، سورہ طلاق سورہ: ۶۔ آیت: ۲،
میں.....

اسی طرح پاکدامن عورتوں کے بارے میں گواہی کے لیے چار لوگوں کی شہادت کی ضرورت ہے جیسے کہ سورہ نور سورہ نمبر ۲۴ آیت نمبر چار میں ہے کہ.....

یہ بات درست نہیں ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ہمیشہ ایک مرد کے برابر ہوگی، یہ صرف چند مخصوص معاملات میں ہے، قرآن کے اندر پانچ آیات ایسی ہیں جن میں گواہی کے معاملے میں مرد اور عورت کی تفریق کے بغیر حکم موجود ہے اور صرف ایک آیت ایسی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر ۲ آیت نمبر ۲۸۲ میں ہے اور مالی معاملات میں قرآن کی یہ سب سے لمبی آیت ہے.....

قرآن کی یہ آیت صرف مالی معاملات کے لیے ہے اور اس قسم کے معاملات میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان لکھ لیا جائے اور اس کے دو گواہ بنا لیے جائیں اور یہ کوشش کی جائے کہ وہ صرف مرد ہوں اور اگر مرد نہ مل سکیں تو ایسی صورت میں ایک مرد اور دو عورتیں کافی ہیں۔ اسلام میں مالی معاملات میں دو مردوں کو ترجیح دی جاتی ہے، اسلام مرد سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ خاندان کی کفالت کریں۔

چونکہ اقتصادی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مالی معاملات میں عورتوں کی نسبت زیادہ معلومات رکھتا ہے، دوسری صورت میں ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ کرنا ہوگا اور اگر ایک عورت بھول جائے یا غلطی کرے تو دوسری اسے یاد دلا دے، قرآن میں عربی کا لفظ **شھید** کا معنی ہے غلطی کرنا یا بھول جانا۔ صرف مالی معاملات میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر قرار دی گئی ہے۔

اس کے برخلاف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی گواہی قتل کے بارے میں بھی دوہری ہے یعنی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، ایسے معاملات میں ایک عورت مرد کی نسبت زیادہ خونخوہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنی جذباتی حالت کی وجہ سے پریشان ہو سکتی ہے، اس لیے بعض لوگوں کے نزدیک قتل جیسے معاملات میں بھی دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، کچھ علماء کے نزدیک دو عورتوں اور ایک مرد کی گواہی تمام معاملات میں ہے اس سے اتفاق نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ سورہ نور سورہ نمبر ۲۴ آیت نمبر ۶-۹ تا میں ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی کے بارے میں واضح حکم موجود ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ان سے کم و بیش ۲۲۲ کے احادیث مروی ہیں جو صرف ان کی اکیلی شہادت کی وجہ سے مستند ہیں، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ایک عورت کی گواہی بھی قابل قبول ہے۔

بہت سے علماء اس بات پر بھی متفق ہیں کہ رویت ہلال یعنی چاند کے دیکھنے کے بارے میں بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزے جیسی عبادت میں جو اسلام کے اہم ارکان میں سے ہے کے لیے بھی ایک عورت کی گواہی کافی ہے اور اس گواہی پر تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں، کچھ علماء کے نزدیک روزے کے آغاز کے لیے ایک، جبکہ اس کے اختتام کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہے اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ گواہ مرد ہوں یا عورت۔

بعض ایسے معاملات بھی ہیں جن میں صرف ایک عورت کی ہی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً عورتوں کے مسائل میں عورت کو دفن کرنے کے لیے اس کو غسل دینا۔ ایسے معاملات میں مرد کی گواہی

قابل قبول نہیں، مالی معاملات میں عورت اور مرد کے درمیان نظر آنے والا یہ فرق کسی عدم مساوات کی بنیاد پر نہیں بلکہ یہ صرف معاشرے میں ان کی مختلف نوع کی ذمہ داریوں اور کردار کی وجہ سے ہے جو اسلام ان کے لیے متعین کرتا ہے۔

(ڈاکٹر صاحب کی عبارت سے آیات کا ترجمہ چھوڑ دیا گیا ہے۔)

تحقیق و تبصرہ

ڈاکٹر صاحب کی اس تفصیل میں کچھ صحیح کے ساتھ کیا کیا خلط و خلل ہے اس کی تفصیل کی جائے تو وہ بڑی طویل ہوگی۔

۱۔ مختصراً یہ کہ اسلام کا قانون شہادت و نظام شہادت، اساسی طور پر قرآن مجید میں اور تفصیل سے کتب حدیث و کتب فقہ میں موجود ہے، اہل علم خوب واقف ہیں اور کتابیں خوب دستیاب ہیں، مختلف زبانوں میں، پڑھنے والے کتابوں کے واسطے سے شہادت کی بابت شریعت کی تفصیلات سے واقف ہو سکتے ہیں اور پھر خود فیصلہ کر لیں۔ اہل انصاف اہل نظر کا فیصلہ ذکر کردہ مختلف امور میں یہی ہوگا کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا ہے اور وہ یہی کہیں گے۔ عین تقاوت راہ از کجا تا کجا

۲۔ اور مختصراً نیز معتمد و مستند شرعی تفصیل سے واقف ہونے کے لیے عرض ہے کہ احقر کے سامنے ایک کتاب ”الفقہ الاسلامی وادلتہ“ ہے جو عالم اسلام کے ممتاز فقیہ و صاحبِ ذہن کی ہے اور جس میں چاروں معروف فقہی مذاہب کے علاوہ مزید مذاہب کا بھی لحاظ و خیال کیا گیا ہے جن میں ظاہر یہ بھی ہیں جن سے اہل حدیث حضرات کی عموماً موافقت پائی جاتی ہے۔

اس کتاب کی آٹھویں جلد میں قضا وغیرہ کے مسائل کے ساتھ شہادت کی تفصیلات موجود ہیں، جو ڈاکٹر صاحب کی ذکر کردہ برجستہ تفصیل سے موافقت نہیں رکھتیں.....

دوسری کتاب ہے ”الموسوعۃ الفقہیہ“ جو کویت حکومت کی شائع کردہ ہے، اس میں چاروں مذاہب پر ہی انحصار ہے، اس کی چھبیسویں جلد میں شہادت کا مضمون اور اس کی تفصیل آئی ہے اور وہ

بھی مذکورہ تفصیل سے موافقت نہیں رکھتی، اسی کتاب سے چند باتیں نقل کی جاتی ہیں۔

۳۔ ”الموسوعۃ الفقہیہ“ ج ۲۶ ص ۲۲۶ تا ۲۳۰ میں نصاب شہادت کا تذکرہ ہے، تمہید میں یہ کہا گیا ہے کہ گواہوں کی تعداد شہادت کے موضوع کے اعتبار کے مختلف ہوتی ہے (اس کے بعد مذکور ہے)

ا: بعض شہادتوں میں چار سے کم مرد مقبول نہیں اور ایک بھی عورت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ زنا میں ہے۔

ب: کوئی مالدار آدمی اپنے نقر کا دعویٰ کر کے اگر زکاۃ کے استحقاق کی بات کرے تو حنا بلہ کہتے ہیں کہ تین مردوں کی گواہی درکار ہے۔

ج: بعض معاملات میں دو گواہ مگر صرف مرد مقبول کیے جاتے ہیں، یہ زنا کے علاوہ تمام حدود میں ہے، اور اس پر سب فقہاء متفق ہیں۔

اور جمہور فقہاء کی رائے ہے کہ جن معاملات سے عموماً مرد واقف ہوتے ہیں اور وہ مال سے تعلق نہیں رکھتے جیسے نکاح، طلاق، رجعت، ایلاء، ظہار، نسب، اسلام، ارتداد، جرح، تعدیل، موت، یا تنگ دستی، وکالت، وصیت، شہادت پر شہادت وغیرہ ان کا ثبوت دو گواہوں سے اور صرف مرد گواہوں سے ہوتا ہے۔

د: حنفیہ کا کہنا ہے کہ حدود و قصاص کے ماسوا جملہ معاملات خواہ مالی ہوں یا غیر مالی ان میں دو مرد گواہ۔ یا ایک مرد اور دو عورتیں کافی ہیں۔ جبکہ جمہور نے ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی صرف ایسے معاملات میں رکھی ہے جو خالص مالی ہوں۔

ه: بعض معاملات میں صرف عورتوں کی گواہی مقبول ہے جیسے ولادت، رضاع اور وہ معاملات جن سے اجنبی مرد واقف نہیں ہوتے یعنی عموماً۔

البتہ عورتوں کی تعداد کیا ہوگی۔ ایک یا زیادہ اور حکم عام ہے یا تفصیل ہے، اس میں اختلاف

ہے۔ تفصیل میں ایک، دو، تین، چار عورتوں کی بات آئی ہے۔

و: بعض معاملات میں صرف ایک گواہ کافی ہوتا ہے جو عادل و معتبر ہو، خواہ مرد ہو یا عورت جیسے

رمضان کا چاند۔

۴۔ چاروں اماموں کے نزدیک یہ معتبر تفصیلات ہیں، اس کے مطابق معاملات کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں عورت بحیثیت شاہد مقبول ہی نہیں ہے۔ اور کچھ معاملات ہیں جن میں عورت بحیثیت شاہد مقبول ہے۔ پھر جہاں وہ مقبول ہے وہاں بھی ایک قصہ میں تنہا شاہد بن سکتی ہے ورنہ اسے دوسری معاون و مددگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ نقل وغیرہ معاملات میں اکیلی و دیکھی کیا سرے سے مقبول ہی نہیں اور جن آیتوں سے ایسے معاملات میں ڈاکٹر صاحب نے وسعت نکالی یا سمجھی ہے جمہور علماء امت کے نزدیک وہاں آیات کا مدلول اور حکم شرعی اس کے برخلاف ہے۔ زنا کے علاوہ دیگر حدود میں ظاہر یہ ایک مرد کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی کو درست قرار دیتے ہیں۔ (الفقہ الاسلامی ۶۰۴۵/۸)

(۹) باپ کی ولایت کا مطلب

(اقتباس از عورتوں کے حقوق کے بیان میں) ص: 367۔

سوال: اسلامک پرسنل لا (Islamic Personal law) کے تحت صرف باپ ہی اپنی

اولاد کا ولی کیوں ہے؟

جواب: بہن نے پوچھا ہے اسلامی قانون کے مطابق صرف باپ ہی کو نیچرل گارڈین کا حق

حاصل ہے۔ یہ غلط ہے۔ بہن، اسلامی شریعت کے مطابق اگر بچہ اپنی ابتدائی نشوونما میں ہے۔ زیادہ

سے زیادہ سات سال تک۔ اگر وہ اس سے کم ہے تو گارڈین شپ (حفاظت) کی ذمہ داری کا حق ماں

کو جاتا ہے کیونکہ ماں کی ذمہ داری باپ سے زیادہ ہے شروع کے Stage میں، اس کے بعد باپ

گارڈین ہوتا ہے اور جب وہ میچور ہو جائے تو یہ بچہ کی اپنی آزادانہ مرضی ہوگی کہ وہ جس کے ساتھ مرضی

(ہو) رہے، لیکن اس دوران اسلام کہتا ہے کہ بلا تخصیص اس کے کہ بچہ باپ کے ساتھ ہے یا ماں کے ساتھ اس کو دونوں سے ملنے کی اجازت ہے۔ میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا۔

تحقیق و تبصرہ

ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کو (میرا خیال ہے کہ سوال کا جواب ہوا) کہہ کر ختم کر دیا اور اپنی دانست میں جواب دے دیا اور مسائل کو مطمئن کر دیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سوال و جواب میں مطابقت ہی نہیں ہے۔

۲- حق یہ ہے کہ کتاب و سنت کی رو سے والدین پر بچے کے دو قسم کے حق ہیں، ایک حق ولایت اور دوسرے حق حضانت، یہ دو الگ الگ حق ہیں، حق حضانت کا تعلق بچہ کی پرورش و پرداخت، اور یوں کہیے کہ بچپن کے حال کی بچہ کی خدمت سے ہے، اور ولایت بچے کی نگہداشت اور اس کے اخراجات و دیگر امور کی ذمہ داری۔

حق ولایت بالاتفاق باپ کا ہے جبکہ باپ موجود ہو، وہ نہیں تو دادا وغیرہ کا ہوتا ہے اور یہ پیدائش سے لے کر بلوغ تک ہے۔ بالغ ہونے کے بعد یہ حق خود بچے کو حاصل ہو جاتا ہے اگر عاقل بھی ہو، اور یہ بھی لڑکے کی بات ہے اور لڑکی میں تو بلوغ کے بعد بھی بعض امور (مثلاً نکاح) میں حق ولایت باپ کا ہی رہتا ہے (اگرچہ اس میں تفصیل و اختلاف بھی ہے)۔ حق ولایت عورتوں کو حتیٰ کہ ماں کو بھی کم از کم باپ کی موجودگی میں حاصل نہیں۔

اور کہا جاسکتا ہے کہ یہ حق بھی دو حصوں میں ہے، ایک حق کفالت، خرچ و اخراجات کی ذمہ دار کا حق، دوسرے سرپرستی، معاملات کو دیکھنے و حل کرنے کا حق۔

اور حق حضانت کا تعلق نہ تو خرچ و اخراجات سے ہے اور نہ سرپرستی و معاملات کے حل کرنے۔ نکاح وغیرہ سے ہے، بلکہ اس کا تعلق بچہ کی جسمانی خدمت، نگہداشت و پرداخت سے ہے، یہ حق کم از کم سات سال تک عورتوں کا ہے، مسئلہ اہم اس وقت ہوتا ہے جبکہ زوجین میں علیحدگی ہو جائے یا ماں کا انتقال

ہو جائے مثلاً یہ حق ماں کا ہی ہے، ماں نہ ہو تو خالہ و نانی وغیرہ کا ہوتا ہے۔ بچہ ہو یا بچی سات سال کی عمر تک ماں، خالہ، نانی وغیرہ کے پاس رہیں گے، ان کی نگہداشت و پرداخت یہ عورتیں کریں گی، اس عرصے کا جو خرچ ہوگا وہ باپ یا جو ولی ہو وہ ہی ادا کرے گا، ضرورت ہوگی تو خدمت کرنے والی عورت کا خرچ بھی باپ و ولی برداشت کرے گا۔ سات سال کی عمر کے بعد کیا ہوگا، اس میں تفصیل و اختلاف ہے۔

۳۔ یہ جو کچھ عرض کیا گیا ہے یہ کتاب و سنت کی روشنی میں تمام کتب حدیث و کتب فقہ میں موجود ہے، آیات بھی ہیں اور روایات بھی پھر علماء امت، صحابہ و تابعین کی تصریحات بھی ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے اسی سے سمجھا جاسکتا ہے، کس کے نزدیک کتابوں میں کیا ہے؟ علماء امت نے کیا کہا ہے؟ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو اور ہم نے کیا سمجھا یہی اہم ہو تو بات دوسری ہے!

۴۔ سوال ولایت کا کیا گیا ہے، جواب میں ڈاکٹر صاحب نے حضانت کی بات کہی ہے، اور نہ اس کی تفصیل کی ہے اور نہ ولایت کی کوئی تفصیل و تذکرہ ہے۔ اہل علم خود رجوع و مراجعت سے سمجھ سکتے ہیں۔

۵۔ مجبور ہو کر کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی عقل کی اور اپنے فہم و مطالعہ کی بات اسلامیات و شریعات کے بارے میں عموماً کرتے ہیں، قرآن سے جو وہ سمجھتے ہیں بس اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں اور اُس کو سمجھا کر مطمئن ہو جاتے ہیں یا مطمئن کرنے کی سعی کرتے ہیں۔

آیات قرآنیہ سے متعلق ہی اور ان کی روشنی میں احادیث میں کیا ہے؟ یا استقلاً احادیث میں کیا ہے؟ آثار صحابہ و تابعین میں کیا ہے؟ ائمہ اربعہ وغیرہ کی باتیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر نہیں، یا علم میں نہیں یا اہمیت نہیں واللہ اعلم اور یہ باتیں امت میں کس کے نظریات و مذہب کی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہی وضاحت کر سکتے ہیں اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کا تذکرہ کرتے ہی نہیں کہ علماء امت بشمول صحابہ و تابعین نے کیا کہا اور کیا سمجھا ہے؟ اس کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب کی فکر و دعوت کا رخ کیا ہے؟ اور کیا ہوگا؟ اس کو سمجھا جاسکتا ہے۔

مجموعہ خطبات سے پانچویں چیز ”اسلام پر چالیس اعتراضات اور ان کے مدلل جوابات“ ان سطور میں اسی آخری پانچویں سوالات و جوابات کے حصہ سے کچھ اہم قابل نظر وغور چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔

(۱۰) یا اخت ہارون کی غلط توجیہ

سوال ۳۹ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ مریم علیہا السلام ہارون علیہ السلام کی بہن تھیں، حضرت محمد جنہوں نے قرآن تصنیف کیا (نعوذ باللہ) یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ہارون علیہ السلام کی بہن مریم یسوع مسیح کی والدہ MARY سے مختلف عورت ہیں اور ان دونوں میں تقریباً ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے؟

جواب: قرآن میں سورہ مریم سورہ نمبر ۱۹ کی آیت نمبر ۲۷/۲۸ میں کہا گیا ہے۔

ترجمہ: ”پھر وہ اسے اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لائی، وہ بولے: اے مریم! تو لائی ہے غضب کی چیز، اے ہارون کی بہن! تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں ہی تھی بدکار۔“

عیسائی میشری یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد ﷺ کو یسوع مسیح کی والدہ میری اور ہارون کی بہن مریم میں فرق کا پتہ نہیں تھا حالانکہ عربی میں بہن کے معنی اولاد بھی ہیں اس لیے لوگوں نے مریم سے کہا کہ اے ہارون کی اولاد اور اصل میں اس سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد ہی ہے۔

بائبل میں بیٹا بھی اولاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مثلاً انجیل کے باب ایک کے پہلے جملے میں ہے: ”یسوع مسیح داؤد کا بیٹا“ لوقا کی انجیل کے باب تین کے ۲۳ ویں جملے میں ہے۔ ”جب یسوع خود تعلیم دینے لگا اس وقت وہ تیس برس کا تھا اور یوسف کا بیٹا تھا“۔ ایک شخص کے دو باپ نہیں ہو سکتے، اس لیے جب یہ کہا جائے کہ یسوع مسیح علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کا بیٹا تھا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ مسیح داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بیٹا سے مراد جانشین یا اولاد ہے۔

اس بنا پر قرآن کریم کی سورہ مریم نمبر ۱۹ کی آیت نمبر ۲۸ پر اعتراض بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ اس میں بیان کیے گئے ”ہارون کی بہن“ سے مراد حضرت مریم مسیح علیہ السلام کی والدہ ہیں جو حضرت

ہارون علیہ السلام کی اولاد دیا ان کی نسل سے تھیں۔

حدیث کی روشنی یا اخت ہارون کی تحقیق

سوال میں مذکور اعتراض کوئی نیا نہیں اتنا قدیم ہے کہ عہد نبوی میں بھی سامنے آچکا ہے اور

زبان نبوی سے اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے۔

تفسیر ابن کثیر (قاہرہ، مصر) ج: ۵، ص: ۲۲۲ میں روایت آئی ہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے نجران بھیجا تو وہاں کے (عیسائی) لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم لوگ قرآن میں یا اخت ہارون پڑھتے ہو اور موسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اتنے اتنے پہلے تھے۔ مغیرہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ واپس آیا تو رسول اللہ ﷺ سے یہ بات عرض کی، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے ان سے کیوں نہ کہہ دیا کہ وہ لوگ سابقہ انبیاء و صلحاء کا نام رکھا کرتے تھے۔

یہ جواب نبی اکرم ﷺ سے محفوظ و منقول ہے اور معروف ہے کیونکہ روایت ابن کثیر و طبری کے علاوہ صحاح ستہ میں صحیح مسلم (ج: ۴، ص: ۱۱۶) طبع دار الفکر، کتاب الآداب، باب النہی عن التکنی بأبی القاسم و بیان ما یستحب من الاسماء) ترمذی مع تحفہ، طبع دار الفکر بیروت (ج: ۸، ص: ۵۰۹ حدیث ۳۱۵۵) تفسیر سورہ مریم) میں آئی ہے نیز نسائی، سنن صغریٰ اور مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے جیسا کہ ابن کثیر وغیرہ میں مذکور ہے اور حدیث صحیح ہے کہ مسلم میں بھی ہے اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے۔

جواب نبوی کا حاصل یہ ہے کہ مریم، والدہ عیسیٰ کے بھائی ہارون حضرت موسیٰ کے بھائی نہیں تھے مریم کے ہی بھائی تھے، ناموں کا اشتراک ہے کہ بنی اسرائیل کا معمول اپنے بڑوں اور بزرگوں کے نام رکھنے کا تھا جیسا کہ دنیا میں عموماً رہا اور آج بھی ہے۔

تفسیر ابن کثیر وغیرہ نے کچھ اور باتیں بھی کہی و لکھی اور نقل کی ہیں لیکن مقدم و معتمد وہ جواب

ہے جو مرفوعاً نبی اکرم ﷺ سے بسند صحیح ثابت ہے۔

ڈاکٹر ذاکر نائیک کا قرآن وحدیث کے انحراف

نیز بائبل سے استدلال میں غلطی

ڈاکٹر ذاکر نائیک صاحب اسی ذوق کے حامل وداعی ہیں پھر بھی اس جواب کے بجائے اپنی طرف سے جواب دیا۔ یہ روایات سے صرف نظر ہے یا لاعلمی؟ جبکہ یہ انتہائی معروف چیز ہے جیسا کہ حوالوں سے واضح ہے۔

پھر اپنے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے سارا زور اس پر لگایا ہے کہ لفظ ”اخت“ اولاد کے معنی میں ہے اور یہ ایک استعمال ہے اور استدلال میں بائبل وانجیل کا حوالہ تو دیا ہے مگر نہ دوسری کسی آیت کا، نہ کسی روایت کا اور نہ ہی لغت عرب اور اس کی کسی کتاب کا، ایک داعی اسلام اور مسلم اسکالر کے استدلال کا یہ رخ کیسا؟

میں نے لغت عرب کی بڑی اساسی اور اہم ومعتمد کتاب ”لسان العرب“ سے بھی مراجعت کی، دیگر بعض کتب بھی دیکھیں، مگر لفظ ”اخ و اخت“ کا استعمال اولاد کے معنی میں نہیں ملا۔ سفر معراج میں آسمانوں کی سیر و سفر کے بیان میں انبیاء سے ملاقات کا تذکرہ آیا ہے، اس میں کہیں لفظ ”اخ“ اور کہیں ”اب“ آیا ہے، جو انبیاء علیہم السلام آپ ﷺ کے سلسلہ نسب میں ہیں ان کے لیے لفظ ”اب“ اور جو اس طبقے کے نہیں ہیں ان کے لیے لفظ ”اخ“ کا استعمال ہوا ہے، اگر ڈاکٹر صاحب کے ذکر کردہ معنی میں استعمال عربیت کا ہوتا تو اس فرق کی ضرورت نہ تھی روایات معراج کے بیان میں کہیں بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔

اسی طرح راغب اصفہانی کی کتاب ”المفردات فی غرائب القرآن“ دیکھی جو الفاظ قرآنیہ کے خود قرآن کے اندر مختلف معانی ومقائیم میں استعمال کے بیان میں معروف ومقبول عام کتاب ہے اس میں لفظ ”اخ“ یا لفظ ”اُخت“ کا ”اولاد“ کے معنی میں استعمال کا کوئی تذکرہ نہیں

ہے، ہاں دوسری مناسبتوں کا تذکرہ ہے۔ مثلاً اخت ہارون سے متعلق ہی آیا ہے کہ صفات و کمالات میں اشتر اک کی وجہ سے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں بھی ہوا ہے۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر (ج ۵: ص ۲۲۱ طبع مذکور) میں بھی پہلے نمبر پر اسی مفہوم کو بعض حضرات سے نقل کیا گیا ہے۔ بہر حال کتب تفسیر اور کتب لغات میں یہ استعمال معروف کیا مذکور بھی نہیں ہے۔

(۳) ڈاکٹر صاحب کے جواب میں لوقا کی انجیل کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ جملہ بھی آیا ہے ”یوسف کا بیٹا“ اہل علم اس سے ناواقف نہیں ہیں کہ کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی نسبت ”یوسف“ کی طرف کر کے کتاب و سنت کے خلاف ایک دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے اس حوالے میں کچھ اس قسم کی بات تو نہیں ہے؟

ڈاکٹر صاحب کی تحریر میں انبیاء کے ناموں کے ساتھ ”علیہ السلام“ آیا ہے اور آنا چاہیے مگر حضرت مریم علیہا السلام کے ساتھ ”علیہ السلام“ آیا ہے اگر یہ عبارت و کتابت کی خامی نہیں تو مبلغ علم سمجھا جاسکتا ہے کہ مؤنث کے لیے مذکر کی ضمیر لائی گئی ہے۔

(۱۱) جنین کی وضاحت میں سائنس پر اعتماد اور مفسرین عظام پر تنقید

(۲) ص ۴۹۲: ص ۱۵ تا ص ۴۹۳: ص ۹

سوال ۱۲۸: قرآن میں ہے کہ کسی ماں کے رحم میں موجود بچے کی جنس صرف اللہ کو معلوم ہوتی ہے مگر اب سائنس کافی ترقی کر چکی ہے اور ہم آسانی سے الٹرا سونو گرافی کے ذریعے جنین کی تعیین کر سکتے ہیں کیا یہ قرآنی آیت میڈیکل سائنس کے خلاف نہیں ہے؟

جواب! : اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق اور علیم و خبیر ہے، اس نے کچھ چیزوں کا علم انسانوں کو بھی دیا ہے مگر یہ ہر موجود اور غائب چیز کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔

کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ماں کے رحم میں جنین کی جنس کو جانتا ہے، قرآن کہتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر ۳۱ آیت نمبر ۳۴۔

ترجمہ: ”بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم وہی بارش نازل کرتا ہے، اور وہ ہی جانتا ہے جو ماں کے رحم میں ہے“

ایسے ہی ایک پیغام سورہٴ رعد سورہ نمبر ۱۳ آیت نمبر ۸ میں ہے۔ ترجمہ: ”اللہ ہی جانتا ہے جو ہر مادہ پیٹ میں رکھتی ہے اور جو رحم میں سکڑتا ہے اور بڑھتا ہے، اس کے نزدیک ہر چیز ایک اندازہ سے ہے“ آج کی سائنس ترقی کر چکی ہے اور الٹراسونوگرافی کے ذریعہ حاملہ عورت کے رحم میں بچے کی جنس کا تعین آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ قرآن کی اس آیت کے مختلف ترجمے اور تشریحات میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں موجود بچے کی جنس کیا ہے مگر اب اس آیت کا عربی متن ملاحظہ کریں تو دیکھیں گے کہ انگلش کا لفظ جنس (SEX) کا کوئی متبادل عربی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اصل میں قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ رحموں میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ کافی مفسرین کو غلط فہمی ہوئی اور انھوں نے اس سے یہ معنی مراد لیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ماں کے رحم میں بچے کی جنس کو جانتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ یہ آیت جنین کی جنس کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں کے رحم میں موجود بچے کی فطرت کیسی ہوگی اور کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے باعث برکت اور سعادت ہوگا یا باعث زحمت؟ کیا وہ معاشرے کے لیے باعثِ رحمت ہوگا یا عذاب کا باعث بنے گا؟ آیا وہ نیک ہوگا یا بد؟ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں، ان سب باتوں کا مکمل علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔

دنیا کا کوئی سائنس داں چاہے اس کے پاس کتنے ہی ترقی یافتہ قسم کے آلات کیوں نہ ہوں ماں کے رحم میں موجود بچے کے بارے میں ان باتوں کا درست جواب نہیں دے سکے گا۔

قرآن و حدیث کی روشنی میں جنین کی تحقیق

(۱) کسی صاحبِ کلام کی گفتگو کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک معروف و مسلمہ اصول ہے کہ کلام کا

سیاق و سباق دیکھو، جیسا کہ بسا اوقات دوسرے امور کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ علماء امت نے قرآن فہمی کے لیے بھی اس اصول کا تذکرہ کیا ہے اور اس کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ مشہور ہے ”القرآن یفسر بعضہ بعضاً“

رحم مادر میں جنین کی جنس کے علم کی تخصیص ان دونوں آیات کے تحت مراد ہے یا نہیں اس کے لیے دونوں آیات کو مکمل طور پر دیکھ لینا اور سامنے رکھنا کافی ہے۔

سورہ لقمان کی مذکورہ آیت۔ نمبر ۳۴ جو سورت کی آخری آیت ہے، اس میں پانچ چیزوں کا علم حق تعالیٰ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، قیامت کا وقت، بارش کا وقت و مقدار، رحم مادر میں بچہ کی نوعیت، اور آدمی کا عمل و انجام اور آدمی کی موت کی جگہ (وقت)۔

اس آیت میں تو رحم مادر کی چیز کے علم کا جملاً تذکرہ ہے لیکن سورہ رعد کی آیت نمبر ۸ جس کا تذکرہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے اس میں مضمون والفاظ زیادہ ہیں اور مجموعی طور پر اس سے اس مفہوم کی وضاحت ہوتی ہے جس کا ڈاکٹر صاحب نے انکار کیا ہے اس لیے کہ سورہ رعد کی آیت میں ”اللہ یعلم ما تحمل انثی“ (اللہ ہی جانتا ہے کہ مادہ اپنے رحم میں کیا رکھے واٹھائے ہوئے ہے) کے بعد مزید آیا ہے۔ ”وما تغیض الأرحام وما تزاد“ ڈاکٹر صاحب نے اس سے کیا سمجھا اور کیا ترجمہ کیا۔ وہ جائیں۔ یہ مات حمل کے ساتھ متصل اور مرتبط ہے اور ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ مادہ کے حمل کو جانتا ہے۔ اور رحموں میں جو کمی وبیشی ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اور کمی بیشی کس چیز کی۔ تو صحابہ سے زیادہ اس کو کون جان سکتا ہے کہ انھوں نے نبی اکرم ﷺ کی زبان سے قرآن بھی سنا اور اس کا مفہوم بھی سنا و سمجھا۔ تفسیر ابن کثیر (ج: ۴/ص: ۳۵۷) میں ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ کئی بیشی رحم کے بچے کے جسم کی اور مدت حمل کی مراد ہے۔

سورہ لقمان کی آیت نیز سورہ النعام کی آیت: ۵۹ سے متعلق جو ایک معروف روایت ابن عمر کی ہے جو صحیح بخاری کی کتاب التفسیر کے اندر سورہ النعام و سورہ رعد دونوں کے تحت آئی ہے اور دوسری جگہوں میں بھی مذکور ہے۔ سورہ رعد کی آیت مذکورہ کے تحت امام بخاری نے ابن عمر سے اس کو کسی قدر

تفصیل سے نقل کیا ہے اس میں ہے۔ غیب کی کنجیاں پانچ ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کل کیا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا” ولا يعلم ما تغیب الا رحام الا اللہ“ اور رحموں کی کمی بیشی کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس روایت میں لفظ ”لا يعلم ما فی الارحام“ سورہ لقمان کی آیت کا نہیں بلکہ سورہ رعد کی آیت کا لفظ آیا ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں جگہ مفہوم و حاصل ایک ہے کہ ایک ہی راوی نقل کر رہا ہے۔

(۲) تفسیر و قرآن فہمی کا دوسرا معروف و مسلم اصول ہے متعلقہ روایات کو دیکھنا، سورہ رعد و سورہ لقمان دونوں جگہوں میں معروف و مسلم کتب تفسیر جیسے ابن کثیر وغیرہ اور صحیح بخاری وغیرہ کی کتاب التفسیر میں روایات موجود ہیں۔

تفسیر ابن کثیر (ج: ۶، ص: ۳۵۶، طبع الشعب مصر) میں ابن ابی حاتم و ابن جریر کے واسطے سے مجاہد (طبقة تابعین میں امام تفسیر) کی روایت نقل کی ہے کہ ایک بادیہ نشین نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے، بتائیے کہ وہ کیا جنے گی؟ (ظاہر ہے یہاں سوال لڑکے و لڑکی یعنی جنس کا ہی ہے) اور بارش نیز اپنی موت کے وقت کا بھی سوال کیا، اس پر سورہ لقمان کی آیت نازل ہوئی۔

تفسیر ابن کثیر (ج: ۶، ص: ۳۵۶ و ۳۵۷) میں ہی ہے کہ طبقة تابعین کے ایک دوسرے معروف امام تفسیر قتادہ کا بیان ہے کہ کچھ چیزوں کا علم اللہ نے اپنے ساتھ مخصوص رکھا ہے اور ان سے کسی مقرب فرشتے یا نبی مرسل کو بھی واقف نہیں کرایا ہے، اس کے بعد سورہ لقمان کی آیت کے پانچوں ٹکڑوں کو الگ الگ کر کے وضاحت سے ذکر کیا اور اسی میں فرمایا ”ويعلم ما فی الارحام“ کوئی نہیں جانتا کہ رحموں میں کیا ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی۔ سرخ یا کالا، یا کیا ہے؟

تفسیر درمنثور، ج: ۶، ص: ۵۳۰، طبع دار الفکر۔ میں بواسطہ عکرمہ ”مجاہد“ کے مضمون والی روایت آئی ہے، ملاحظہ ہو تفسیر سورہ لقمان آیت مذکورہ۔ اور ان روایات سے بھی واضح درمنثور (ج: ۲، ص: ۵۳۱ و ۵۳۲) میں مذکور حضرت ابو امامہ اور سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہما کی روایات ہیں

جن میں آیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی اوٹنی کے حمل کے لیے اور دوسرے نے گھوڑی کے حمل کے لیے پوچھا کہ کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے آیت مذکورہ (سورہ لقمان) کی تلاوت فرمائی۔

نفلی و عفتی غلطیاں

۳) ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اور معروف بات کو رد کرنے کے لیے کسی روایت کو دلیل نہیں بنایا ہے بلکہ سائنس کی ترقی اور اس بات کو کہ قرآن کریم نے کوئی ایسا لفظ ذکر نہیں کیا ہے جو جنس (SEX) کے مفہوم میں ہو، یہ صحیح ہے کہ جنس کا لفظ نہیں آیا ہے لیکن غور کا مقام ہے کہ جو لفظ آیا ہے کیا وہ اس کی تردید نفی کرتا ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے، آیت کے الفاظ میں ”يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ“ یعنی لفظ ”ما“ ہے جو ڈاکٹر صاحب کے ذکر کردہ مفہوم کی تو گنجائش تو رکھتا ہے مگر جس مفہوم کی انہوں نے تردید کی ہے اس کی نفی کی گنجائش و صلاحیت بالکل نہیں رکھتا۔ آیت کا مفہوم ہے اللہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے اس کا اشارہ جتنا واضح جنس کی طرف ہے جیسا کہ صحابہ و تابعین سے مروی ہے صفت کی طرف نہیں ہے جس میں انحصار کا دعویٰ کیا گیا ہے لفظ ”ما“ عربیت کی رو سے اسم موصول ہے اور مفہوم میں عموم رکھتا ہے جیسا کہ نحو و اصول فقہ وغیرہ کی کتب میں مذکور و معروف ہے۔

جہاں تک سائنس و آلات کی ترقی اور ان کے ذریعہ حصول علم کا معاملہ ہے تو تعجب کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب الٹرا سونو گرافی سے حاصل ہونے والے نتائج کو قطعی مان رہے ہیں جبکہ مشاہدہ و تجربہ میں یہ بات بار بار آرہی ہے کہ اس قسم کے سٹٹ وغیرہ کے نتائج غلط بھی سامنے آ رہے ہیں، لوگ ان نتائج کی بنیاد پر اسقاط کرتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ضائع کیا جانے والا حمل بچہ تھایا مٹھائی تقسیم ہو جاتی ہے اور ولادت بچی کی ہوتی ہے۔

یہ بھی سوچنے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کتاب و سنت کے ترجمان ہیں کیا کتاب و سنت کی رو سے یا اعضاء ظاہرہ (آنکھ کان وغیرہ) سے حاصل ہونے والے علم کے علاوہ بھی کوئی علم قطعیت رکھتا؟

ہے آسان جواب جو اسلامی ہے اور مسلم کامل کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ آیت سائنس کے خلاف ہے حق تعالیٰ کا علم ایسے سارے امور میں قطعی اور بغیر کسی شک و وسائل کے بغیر ہے۔ اور سائنس سے حاصل ہونے والا علم نہ قطعیت رکھتا ہے اور نہ کلیت اور نہ ہی بے اسباب ہے۔ یہی جواب عصر حاضر کے ان حضرات علماء و مفسرین کا ہے جن کی کتاب و سنت پر صحیح نظر ہے اور عقیدہ بھی ہے۔

(۴) اس موقع سے یہ ذکر کر دینا بھی مناسب ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو مفہوم ذکر کیا ہے اور جس کو متعین و صحیح بتایا ہے، آیت اس کی نفی نہیں کرتی، قرآن کریم کا ایک ایک لفظ بلیغ و جامع ہوتا ہے۔ لفظ ”ما“ اس مفہوم کی بھی وسعت رکھتا ہے چنانچہ معتمد مفسرین نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اس طور پر کہ ڈاکٹر صاحب کی طرح حصر نہیں کیا ہے بلکہ اولاً جنس کا اور پھر دوسری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے مثلاً ابن کثیر نے سورہ لقمان کی آیت کے تحت (ج: ۶، ص: ۳۵۵) میں اس کو ذکر کیا ہے اور ج: ۶، ص: ۳۵۸ پر مشہور تابعی قوادہ سے بھی اس کو نقل کیا ہے۔

(۵) ڈاکٹر صاحب کی عبارت میں جو بے ربطی وغیرہ ہے اس کے ساتھ ان کے درج ذیل الفاظ محل غور ہیں۔

”کافی مفسرین کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس سے یہ معنی مراد لیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ماں کے رحم میں بچہ کی جنس کو جانتا ہے یہ درست نہیں ہے“۔ مفسرین نے جو بات درایت (عربیت) اور روایت کی بنیاد پر کہی ہے وہ غلط فہمی اور نادراست ہے جبکہ ڈاکٹر صاحب کی بات۔ جو کہ نہ درایت سے مؤید ہے اور نہ روایت سے، جس انداز میں انہوں نے اپنی بات پیش کی ہے۔ درست ہے یہ بو الجھی نہیں ہے تو کیا ہے!۔

(۱۲) جنت میں مرد حور، ص: ۵۱۵، ص: ۱۳، ص: ۵۱۸، ص: ۵۔

سوال ۱۳۷ : قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اسے حوریں یعنی خوبصورت دوشیزائیں ملیں گی، جب کوئی عورت جنت میں جائے گی تو اسے کیا ملے گا؟

جواب : حور کا لفظ قرآن میں کم از کم چار جگہ استعمال کیا گیا ہے۔

(۱) سورہ دخان۔ سورہ نمبر ۴۴/ آیت نمبر ۴۵ ر

ترجمہ: ”اور اسی طرح ہم خوب رو بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے ان کے جوڑے بنائیں گے“

(۲) سورہ طور، سورہ نمبر ۵۲/ آیت نمبر ۲۰ ر

ترجمہ: ”اور ہم نے ان کی زوجیت میں دیا بڑی آنکھوں والی حوروں کو“۔

(۳) سورہ رحمن: سورہ نمبر ۵۵/ آیت نمبر ۲۷ ر

ترجمہ: ”دخیموں میں پردہ نشیں عورتیں (حوریں) ٹہرائی گئیں“۔

(۴) سورہ واقعہ: سورہ نمبر ۵۶/ آیت نمبر ۲۲، ۲۳ ر

ترجمہ: ”اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے (موتی کے دانے) سپی میں چھپے ہوئے“

قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے لفظ ”حور“ کا ترجمہ خاص طور پر اردو ترجمہ کرنے والوں نے خوبصورت دوشیزائیں یا لڑکیاں کیا ہے، ایسی صورت میں وہ صرف مردوں کے لیے ہوں گی پھر عورتوں کا کیا ہوگا؟

لفظ ”حور“ اصل میں اَحْوَر اور حَوْرَاء دونوں کا صیغہ جمع ہے اور یہ ایسے آدمی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی آنکھیں حور جیسی ہوں جو جنت میں جانے والے مردوں اور عورتوں کی نیک ارواح کو دی جانے والی خاص صفت ہے اور یہ روحانی آنکھ کے سفید حصے کی انتہائی اجلی رنگت کو ظاہر کرتی ہے۔ بہت سی دیگر آیات میں یہی کہا گیا ہے کہ جنت میں ازواج یعنی جوڑے ہوں گے اور تمہارا جوڑا پاک ساتھی ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر ۲/ آیت نمبر ۲۵ میں فرماتے ہیں:

ترجمہ: ”اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے“

اور سورہ نساء سورہ نمبر: ۱۲۰ آیت نمبر: ۵۷

ترجمہ: ”اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہم عنقریب انہیں باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ان کے لیے پاک ستھری بیویاں ہیں اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں داخل کریں گے“

اس لیے حور کا لفظ کسی خاص جنس یا صفت کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ علامہ محمد اسد نے لفظ ”حور“ کا ترجمہ (Spouse) خاوند یا بیوی کیا ہے جبکہ عبد اللہ یوسف علی نے اس کا ترجمہ (Companion) ساتھی کیا ہے۔ اس لیے بعض علماء کے خیال میں جنت میں کسی مرد کو جو حور ملے گی وہ بڑی بڑی چمکتی آنکھوں والی دوشیزہ ہوگی جبکہ جنتی عورت کو جو ساتھی ملے گا وہ بڑی بڑی روشن آنکھوں والا ہوگا۔

بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو لفظ ”حور“ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب صرف عورتیں ہیں کیونکہ ان کا تذکرہ مردوں سے کیا گیا ہے۔

اس کا جواب جو سب کے لیے قابل قبول ہو حدیث میں دیا گیا ہے، حضرت محمد ﷺ سے یہی پوچھا گیا کہ اگر مرد کو جنت میں خوبصورت دوشیزہ یعنی ”حور“ دی جائے گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ انہوں نے فرمایا: ”عورتوں کو وہ ملے گا جس کی ان کے دل میں خواہش پیدا ہوگی نہ تو ان کے کانوں نے کبھی ان کا ذکر سنا ہوگا اور نہ ہی ان کی آنکھوں نے کبھی اسے دیکھا ہوگا“ دوسرے لفظوں میں عورتوں کو جنت میں کوئی خاص چیز دی جائے گی۔

تحقیق و تبصرہ

جواب کو پڑھیے اور لطف لیجیے، ڈاکٹر صاحب نے عجیب و غریب اور بالکل انوکھی بات ذکر کی ہے، میرا خیال ہے کہ خواص اہل علم کے کان و نظر بھی اس جواب و تفصیل سے نا آشنا ہی ہوں گے اور صورت یہ ہے کہ جواب سارا کا سارا ڈاکٹر صاحب کی منطق و عقل پر مبنی ہے، کچھ لغوی معنی کا سہارا

لیا گیا ہے، اور حوالہ اگر ہے تو انہیں جیسے علم و تعلیم والے انگریزی مترجمین قرآن کا اور جواب کی وقعت بڑھانے کو محمد اسد صاحب کے ساتھ ”علامہ“ لگا دیا گیا ہے اور اس بات کو بعض علماء کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے غنیمت ہے کہ دوسری رائے زیادہ تر کی بتائی گئی ہے۔ اور نہ کسی آیت کا تذکرہ ہے خواہ اشارہ پر ہی مشتمل ہوتی۔ اور جن دو آیات کا تذکرہ اس عموم کے لیے کیا ہے جو ڈاکٹر صاحب کا مدعا ہے تو ان دونوں آیات میں لفظ ”ازواج“ کا ترجمہ خود پیبیوں سے کیا ہے جو ظاہر ہے کہ مردوں کے لیے ہی ہوں گی۔

اور نہ کسی روایت کا تذکرہ، خواہ کسی صحابی یا تابعی کا ہی قول ہوتا۔ اخیر میں جس روایت کو ذکر کیا ہے اس کا حوالہ بھی ذکر نہیں کیا اور ابن کثیر، طبری، درمنثور وغیرہ میں اس روایت کے موقع و محل میں تلاش و نظر پر یہ روایت مجھ کو نہیں مل سکی، اور اس کے ذکر سے اور اس لفظ سے کہ عورتوں کو کچھ خاص چیز ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب کا مقصد اپنے مدعا پر استدلال ہے یا کچھ اور؟ واضح نہ ہو سکا۔

نہ ممتاز مفسرین و علماء محققین میں کسی کا نام و تذکرہ۔ بجز بعض علماء یا دو انگریزی مترجمین کے۔ ڈاکٹر صاحب یوں بھی علماء امت کا نام نہیں لیتے اور نہ ان کا حوالہ دیتے ہیں، علماء امت کیا اپنی تحقیقات میں صحابہ و تابعین کا بھی نام نہیں لیتے!

بہر حال لفظ ”حور“ کفہ کیا ہے اور اس کے اصل لغوی معنی کیا ہیں؟ اس سے قطع نظر کتاب و سنت میں کہیں کسی نسبت و عنوان سے اس مضمون کا تذکرہ نہیں ہے جس کو ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے بلکہ جنت کی مخصوص عورتوں کے تذکرہ کے ساتھ جنت کے مخصوص مردوں کا اگر تذکرہ ہے دنیا کے مردوں کے علاوہ تو بطور خادم کے نہ کہ کسی اور حیثیت سے۔

”حور“ کے ساتھ صفت کے طور پر ”مقصورات“ مومنث کا لفظ لایا گیا ہے جیسے کہ سورہ بقرہ و سورہ نساء کی آیات میں ”ازواج“ کے ساتھ ”مطہرہ“ کا لفظ بطور صفت کے لایا گیا ہے جو مومنث ہے جبکہ لفظ ”زوج و ازواج“ مطلق جوڑے کے معنی میں ہے اور مرد و شوہر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے

قرآن میں بھی ہوا ہے، مگر صفت کا صیغہ ایسے الفاظ کو مخصوص و محدود کر دیتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کی ذکر کردہ ”حور“ والی چار آیات اور مذکورہ دو آیات کے علاوہ بعض آیات میں ”عین“ کا لفظ آیا ہے، لفظ ”عین“ کو عورتوں کے ساتھ خاص کر دیتی ہے (ملاحظہ ہو سورہ صافات سورہ نمبر ۱۳۷/۲۸) جیسے کہ بعض آیات میں قاصرات الطرف کا لفظ حور عین کے بغیر آیا ہے (ملاحظہ ہوں سورہ ص: سورہ نمبر ۱۳۸ آیت نمبر ۵۲/۵۲ سورہ رحمن سورہ نمبر: آیت نمبر: ۱۵۶/۱۵۶)

ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بالخصوص اردو ترجمہ کرنے والوں نے حور کو مخصوص کر دیا ہے لیکن بجز دو انگریزی مترجمین کے کسی عربی مفسر و محقق سے دوسرا مفہوم نقل نہیں کیا۔ کیا چودہ سو سالہ عہد میں کسی صاحب نظر عالم و مفسر نے یہ بات ذکر کی ہے؟ اور اصل تو قرون اولیٰ کے حضرات ہیں ان میں سے کسی کے کلام میں کہیں کچھ ہے؟

(۳) اب ہم سے ایک روایت سنیں جو تفسیر ابن کثیر (طبع شعب) ج: ۸: ص: نمبر ۱۱۰ (تفسیر سورہ واقعہ) میں طبرانی سے نقل کی گئی ہے اور ام المومنین حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے روایت طبرانی کی معجم صغیر (۱۱۰/۱) کما فی حاشیہ ابن کثیر) میں آئی ہے۔

حضرت ام سلمہؓ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ﷺ حق تعالیٰ کے ارشاد ”حور عین“ کی بابت مجھ کو بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: حور گوری اور عین بڑی آنکھوں والی ان کے پوٹے گدھ کے پروں کے درجے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا: ارشاد باری ”کما مشال اللؤلؤ المکنون“ کی بابت بتائیے، فرمایا: ان کی صفائی (چمک و دمک) اس موتی کی ہے جو سیپوں میں ہوتا ہے، جس کو کوئی ہاتھ نہ لگا ہو، میں نے عرض کیا کہ ارشاد باری تعالیٰ ”فیہن خیرات حسان“ کی بابت بتائیے، فرمایا: اخلاق کی اچھی اور چہرہ کی خوبصورت۔ میں نے عرض کیا کہ ارشاد باری ”کأنهن بیض مکنون“ کی بابت بتائیے۔ فرمایا: ان کی نزاکت ایسی ہوگی جیسے انڈہ کے اندر کی وہ جھلی نازک ہوتی ہے جو چھپکے کے بعد اور اس سے متصل ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ارشاد باری ”عربا اترابا“ کی

بابت بتائیے، فرمایا: یہ وہ عورتیں ہیں جن کی موت دنیا میں بڑھاپے میں آتی ہے کہ آنکھیں کمزور اور بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، حق تعالیٰ سبحانہ ان کو بڑھاپے کے بعد (دوبارہ) پیدا کریں گے تو ان کو باکرہ اور عُرْب یعنی محبت و محبوب بنا دیں گے اور ایک عمر کا ہم سن۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! بتائیے کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین؟ فرمایا: دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہیں جیسے کہ کپڑے کے استر کے اوپر کا حصہ اچھا ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ایسا کیوں ہے (کہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں)؟ فرمایا: اس وجہ سے کہ وہ نماز، روزہ اور اللہ عز و جل کی عبادت کرتی ہیں، اللہ ان کے چہروں کو نور کا لباس پہنائے گا اور ان کے جسموں کو ریشم سے آراستہ کرے گا، گوارانگ، ہرے کپڑے، زیورات زرد، ان کی دھونی کا ظرف موتی کا ہوگا، اور ان کی کنگھیاں سونے کی ہیں (آگے کچھ اشعار کا تذکرہ ہے جو وہ پڑھیں گی) میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم میں سے ایک عورت دو، تین چار شوہروں سے (یکے بعد دیگرے) شادیاں کرتی ہے پھر اس کا انتقال ہوتا ہے اور وہ عورت اور اس کے سب شوہر سب جنت میں جائیں گے تو اس عورت کا شوہر (ان چند میں سے) کون ہوگا؟ فرمایا: اے ام سلمہ! اس کو اختیار دیا جائے گا تو ان میں جو سب سے اچھے اخلاق والا ہوگا اس کو وہ پسند کر لے گی اور کہے گی اے میرے پروردگار! اس کے اخلاق (و معاملات) میرے ساتھ بہت اچھے رہے لہذا مجھ کو اس کی زوجیت میں دیدے اے ام سلمہ! حسن خلق دنیا و آخرت سب کی بھلائی کو سمیٹ لیتا ہے۔

ابن کثیر (ج: ۶، ص: ۳۶۹، سورہ سجدہ) و درمنثور (ج: ۶، ص: ۱۵۵) میں سورہ سجدہ سورہ نمبر ۳۲ آیت نمبر ۱۷ کے تحت مخفی نعمتوں کے بیان و وضاحت میں بھی مزید درمزید حوروں کے ملنے و حاصل ہونے کا تذکرہ ہے۔

تکملہ: نبی الوقت ان چیزوں پر اکتفا کی جاتی ہے، اتنا ہی اہل نظر و اہل شعور کے لیے حقیقت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے انشاء اللہ ورنہ ایک ہی رسالہ میں بہت کچھ ہے۔

اب ڈاکٹر صاحب تقریر سے تحریر میں بھی آرہے ہیں انگریزی اور اردو میں۔ اہل علم و نظر خود ان تحریرات کو حاصل کر کے مطالعہ کریں اور بصیرت حاصل کریں تو اچھا ہے۔

اچھی سے اچھی صلاحیت کا آدمی بھی کام اچھا اسی وقت کرتا ہے اور کر سکتا ہے جب وہ محدود رہے اور پابند رہے، ورنہ نام تو پیدا کر سکتا ہے کام نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ اس ذہانت کے حامل ہیں جو مناظرہ کا مزاج چاہتا ہے جس میں آدمی جواب دے کر پیچھا چھڑانے یا سامنے والے کرنے کی سعی کرتا ہے، جواب حق ہے، موزوں ہے یہ ضروری نہیں ہوتا۔

ان کی چیزوں سے واضح ہے کہ دین حق کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے کتاب و سنت سے جس درجہ کی واقفیت کی ضرورت ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس نہیں ہے، مطالعہ بھی زیادہ تر انگریزی کا ہی ہے، عربی سے بھی مطلوبہ کام کے مناسب واقفیت نہیں ہے، جس کا جی چاہے ان کے خطبات ”قرآن اور جدید سائنس“ کا مطالعہ کر کے تصدیق کر لے۔

حق تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلائے اور صراطِ مستقیم وہی ہے جس پر اللہ کے وہ بندے چلے جن کا تذکرہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ لہذا جو بھی صراطِ مستقیم پر چلے گا خواہ شمشند ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان حضرات کو ان کی زندگی کو ان کے معتقدات و نظریات کو اپنائے۔